

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَاللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
وَمِنْ كُلِّ حَيْثٍ أَنْتَ مَنْ يَعْلَمُ
وَمِنْ كُلِّ شَرٍّ يَعْلَمُ اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ
أَنَّهُ شَرٌّ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ يَعْلَمُ

ذِكْرِ حَبِيبٍ

سردِ عالم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر اور آسان تذکرہ



از قلم:

مولانا محمد عبد القوي

(ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد)

ناشر:

Barakaath
برکاٹ Book Depot

Sayeedabad, Hyderabad. (A.P)

تفصیلاتِ طباعت

نام کتاب : ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
مؤلف : مولانا محمد عبدالقوی مدظلہ

صفحات 128

کمپوزنگ : سید خواجہ نصیر الدین قاسمی

طباعت : اے آر پرنسپس، 9849766790

ناشر : برکات بکڈ پو نزد مسجدِ اکبری، اکبر باغ، ملک پیٹ، حیدر آباد (اے پی)

قیمت :

ملنے کے پتے

- ◆ 9885200124 برکات بکڈ پو، ادارہ اشرف العلوم خواجہ باغ سعید آباد حیدر آباد
- ◆ 040-65709414 مکتبہ فیض ابرار متصل مسجدِ اکبری اکبر باغ، حیدر آباد (اے پی)
- ◆ 040-66710230 دکن ٹریڈرز، نزد مغل پورہ پانی کی مشکی، حیدر آباد (اے پی)
- ◆ 9885655591 مکتبہ کلیمیہ یوسفین چوراستہ، نام پلی، حیدر آباد (اے پی)
- ◆ 9886252547 قاسمی کتب خانہ، صفا کامپلکس، سداشو اگر، ٹمکور (کرناٹک)
- ◆ 9421956690 مدرسہ خیر المدارس، چودھری نگر، لاٹور (مہاراشٹر)

فہرستِ مضمایں

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۳۲	سبق آموز حکایت	۲۰
۳۲	کامیاب تجارت	۲۱
۳۵	نسطورا کی شہادت	۲۲
۳۵	حضرت خدیجہؓ کا پیغام نکاح	۲۳
۳۶	نکاح مبارک	۲۴
۳۶	شادی کے بعد	۲۵
۳۷	خلق عظیم کے حامل	۲۶
۳۸	کعبہ کی تعمیر	۲۷
۳۸	آسمانی تائید	۲۸
۳۹	چڑا سودا کا تقسیہ	۲۹
۴۰	شرک و کفر سے نفرت	۳۰
۴۱	خلوت و عزلت کی طرف، رہ جان	۳۱
۴۱	پہلی وحی کا نزول	۳۲
۴۲	احساس ذمہ داری	۳۳
۴۳	ورقة بن نوبل کی تصدیق	۳۴
۴۴	سبھی جانتے تھے مگر	۳۵
۴۷	گھروالوں اور دوستوں کو اطلاع	۳۶
۴۷	دارِ ارم یا مرکزِ دعوت	۳۷
۴۸	زمانہ فترت	۳۸

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۷	تقدیم	۱
۲۱	قبل ولادت مبارکہ	۲
۲۲	ولادت با سعادت	۳
۲۲	انقلابِ عالم کے آثار	۴
۲۳	حافظتِ دین کی ایک جھلک	۵
۲۳	اسم گرامی	۶
۲۴	نسب مبارک	۷
۲۵	والدین کریمین	۸
۲۶	رضاعت اور بچپن	۹
۲۷	شق صدر کا واقعہ	۱۰
۲۸	حضرت آمنہ کا وصال	۱۱
۲۸	دادا بھی چل بے	۱۲
۲۹	چچا کی کفالت میں	۱۳
۲۹	غیبی تعلیم و تربیت	۱۴
۳۰	پہلا سفر اور رُحْیَر اکی ملاقات	۱۵
۳۱	واقعہ کی تفصیل	۱۶
۳۲	قابل فخر جوانی	۱۷
۳۳	سامجی خدمات کا جذبہ	۱۸
۳۳	کاروبار کا آغاز	۱۹

۶۶	جس بے جا	۶۱		کلے عام تبلیغ و دعوت	۳۹
۶۷	غم کا سال	۶۲		دعوتِ اسلام بر دعوتِ طعام	۴۰
۶۸	طاائف کا سفر	۶۳		عوامِ الناس پر آپ کی دعوت کا اثر	۴۱
۶۹	حضرت عداسؓ کا اسلام	۶۴		مالداروں پر اس دعوت کا اثر	۴۲
۷۰	محبوب خدا دست بد دعا	۶۵		ابو طالب سے سردارن مکہ.....	۴۳
۷۰	جنات کی حاضری اور قبول اسلام	۶۶		دوسری ملاقات	۴۴
۷۰	مکہ مکرمہ واپسی	۶۷		تیسرا ملاقات	۴۵
۷۰	واقعہ معراج	۶۸		قریش کے سردار نبی کریمؐ کی	۴۶
۷۱	آغاز سفر	۶۹		پہلی تجویز	۴۷
۷۲	انبیاء کرام کی امامت	۷۰		دوسری تجویز	۴۸
۷۲	آسمانوں کی سیر	۷۱		تیسرا تجویز	۴۹
۷۳	بارگاہِ الٰہی میں حاضری	۷۲		چوتھی تجویز	۵۰
۷۳	نمازوں کی فرضیت	۷۳		صحابہ پر ظلم و ستم	۵۱
۷۴	حضرت ابو بکرؓ کو صدیق کا لقب	۷۴		معزز لوگ بھی زد میں	۵۲
۷۵	مشرکین نے امتحان لیا	۷۵		نبی کریمؐ سے عداوت و دشمنی	۵۳
۷۵	اللہ اپنے رسول کیلئے کافی ہے	۷۶		حضرت حمزہؓ کا اسلام	۵۴
۷۶	موسم حج میں دعوت اسلام	۷۷		حضرت عمرؓ کا اسلام	۵۵
۷۷	حجاج کو بہ کانے کی کوشش	۷۸		ہجرت جب شہ	۵۶
۷۸	ایک دلچسپ واقعہ	۷۹		مشرکین نے وہاں بھی نہ چھوڑا	۵۷
۷۸	یزب کے سعادت مندوگ	۸۰		حضرت جعفرؑ کے تین سوال	۵۸
۷۹	بیعتِ عقبہ اولیٰ	۸۱		نجاشی کے دربار میں	۵۹
۸۰	بیعتِ عقبہ ثانیہ	۸۲		ایک اور ناکام کوشش	۶۰

۹۶	علماء یہود کی حاضری	۱۰۵		۸۰	ایک ایمان افروز مغل	۸۳
۹۶	یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں	۱۰۶		۸۲	نصرت کے لئے بے تابی	۸۲
۹۷	یہود یوں کا حسد اور تعصّب	۱۰۷		۸۲	صحابہؓ کو ہجرت کی اجازت	۸۵
۹۸	مسجد نبوی کی تغیر	۱۰۸		۸۳	مہاجرین کا تعاقب	۸۶
۹۹	شہنشاہ عالم کا دربار	۱۰۹		۸۳	صریح استقامت کے چند واقعات	۸۷
۹۹	بین قومی امن مشن	۱۱۰		۸۶	آپؐ کے قتل کا مشورہ	۸۸
۱۰۰	بھائی چارگی کارشنہ	۱۱۱		۸۷	یہ عجیب ماجرا ہے	۸۹
۱۰۰	مشرکین کا تقضیہ عہد	۱۱۲		۸۷	نبی پاکؐ کی ہجرت	۹۰
۱۰۱	ضرورتِ جہاد و قتال	۱۱۳		۸۸	یار غارا اور عاشق و فادر	۹۱
۱۰۱	ظالموں سے جہاد کا حکم	۱۱۴		۸۹	سردار انقریش کی نامرادی	۹۲
۱۰۲	غزوات و سرایا	۱۱۵		۸۹	تین دن غاریشور میں	۹۳
۱۰۳	تین سو تیرہ ایک ہزار پر غالب ہوئے	۱۱۶		۹۰	سفر ہجرت کا آغاز	۹۳
۱۰۴	سفر عمرہ	۱۱۷		۹۰	پتھرنے سا یہ فراہم کیا	۹۵
۱۰۵	بیعتِ رضوان	۱۱۸		۹۰	دشمن محافظ بن گیا	۹۶
۱۰۶	صلحِ حدیبیہ	۱۱۹		۹۱	طالب دنیا طالب آخرت ہو گیا	۹۷
۱۰۶	قربانی، حلق اور واپسی	۱۲۰		۹۱	سو کھے تھنوں سے دودھ جاری ہوا	۹۸
۱۰۷	سلاطین کو دعوتِ اسلام	۱۲۱		۹۲	اہل مدینہ کا اشتیاق	۹۹
۱۰۸	عمرۃ القضا کیلئے روانگی	۱۲۲		۹۲	قبائل و روڈ مسعود	۱۰۰
۱۰۹	سفر عمرہ سے واپسی	۱۲۳		۹۳	پہلا خطبہ نجحہ	۱۰۱
۱۱۰	قریش کی عہد شکنی	۱۲۴		۹۳	مدینہ میں تشریف آوری	۱۰۲
۱۱۱	قریش پر فوج کشی	۱۲۵		۹۳	نیکی ضائع نہیں ہو گی	۱۰۳
۱۱۱	ملکہ نکرمہ فتح ہو گیا	۱۲۶		۹۵	یہ رب کے مجاہے طیبہ یا مدینہ	۱۰۴

۱۲۸	آخری امامت، آخری خطاب	۱۳۷		۱۱۲	ہر ایک کیلئے معانی	۱۲۷
۱۱۹	حضرت فاطمہؓ کو خوشخبری	۱۳۸		۱۱۲	معانی ہی نہیں احسان بھی	۱۲۸
۱۲۰	آخری لمحات حیات اور وفات	۱۳۹		۱۱۳	کعبہ شریف ہمیشہ کیلئے پاک ہو گیا	۱۳۰
۱۲۰	صحابہؓ کرام کا حال	۱۳۰		۱۱۳	عام الوفود	۱۳۱
۱۲۱	خلیفہ اول نے امت کو سنبھالا	۱۳۱		۱۱۳	صدیق اکبرؓ میر الحجج ج بنائے گئے	۱۳۲
۱۲۲	خلیفہ رسول کا باقاعدہ انتخاب	۱۳۲		۱۱۵	حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ	۱۳۳
۱۲۳	صدیق اکبرؓ کا پہلا خطبہ خلافت	۱۳۳		۱۱۶	سفر آخرت کی تیاری	۱۳۴
۱۲۵	حُلیٰہ نبارکہ	۱۳۴		۱۱۷	معاملات کی صفائی	۱۳۵
۱۲۶	حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۳۵		۱۱۷	مرض الوفات	۱۳۶

حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ کے حقوق اربعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

**فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَأَبْعَثُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** (آل اسراف: ۱۵)

ترجمہ: پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت کی، اور ان کی مدد کی، اور ان پر نازل شدہ کلام (قرآن کریم) کی اتباع کی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔

آیت شریفہ میں آپ کے چار حقوق بتائے گئے ہیں، ایمان تو قیر، نصرت اور اتباع قرآن و سنت!

تقدیم*

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله و نصلى على رسوله الكريم اما بعد !

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس کے بغیر حق تعالیٰ شانہ، کی ذات تک رسائی، اس کی معرفت اور اس کی خوشنودی کا حصول ناممکنات میں سے ہے، وہ کائنات انسانی میں صورت و سیرت، اعمال و اخلاق، دین و دعوت ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی پسند کا ایک عظیم الشان شاہکار، تمام انسانوں کیلئے ہدایت و کامیابی کا یکتا نمونہ اور عبدیت کاملہ کا نمایاں کردار ہیں۔ ان کی اطاعت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے، ان کی خوشی حق تعالیٰ کی خوشی کا سبب ہے، ان کی ناراضگی حق تعالیٰ کی خنگی و ناراضگی کا ذریعہ ہے، ان کا دین دین اللہ ہے، ان کا راستہ صراط اللہ ہے، ان کا مجھہ کتاب اللہ ہے، ان کا قبلہ بیٹھ اللہ ہے، ان کی اطاعت اطاعت اللہ ہے، ان کی چاہت وجہ اللہ ہے، ان کی دعوت کلمۃ اللہ ہے، اور وہ بذاتِ خود عبد اللہ، رسول اللہ، حبیب اللہ اور داعی الی اللہ ہیں۔

انہوں نے اپنی حیاتِ طیبہ کے چالیس سال حق تعالیٰ کی یاد اور اس کے حکم کے انتظار میں گزارے اور تینیں سال بندوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلانے، بھکلے ہوؤں کو سیدھا راستہ دکھانے اور خدا کے باغیوں کو مٹھکانے لگا کر اس کا کلمہ بلند کرنے میں صرف فرمادیئے، توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدہ کو پوری قوت سے لیکر کھڑے ہوئے اور

* تقدیم کی زبان اگر مشکل محسوس ہو تو گزارش ہے کہ اصل کتاب سے مطابع شروع کر دیں۔

جزیرہ العرب کے ہر کچھ پکے مکان میں داخل کرنے تک چین سے نہ بیٹھے، آپ کی دعوت آپ کی موجودگی ہی میں اطراف و اکناف میں دور دور تک پھیل پکھی تھی اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرامؓ نے تو مشرق و مغرب کے کونے کونے میں آپ کے لائے ہوئے دین کا پرچم بلند کر دیا۔ آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے آپ سے پہلے کبھی ایسی کامل رسالت دیکھی نہ اسی کامیاب قیادت اور نہ ہی اسی پاک باز شخصیت! ان کو مجپن سے بڑھا پتک دیکھنے والے کی زبان نے کیا خوب کہا ہے۔

واحسن منک لم ترقط عینی
واجمل منک لم تلد النساء
خلقت مبراً من کل عیب
کانک قد خلقت کماتشاء^(۱)

یہ نادر و بے مثال حسن و جمال جس کی طرف حضرت حسانؓ (۲) اشارہ فرمائے ہیں صرف جسمانی اور خلقی نہیں ہے بلکہ آپ کی روحانی و اخلاقی صورتی حال کو بھی شامل ہے یہ اشعار دیڑھ ہزار برس کا عرصہ گذرنے کے بعد بھی اپنی جامعیت و مانعیت اور معنویت میں بالکل انوکھے اور تازہ ہیں، آج بھی اہل عشق کے قلوب ان کو گلگنا کر مسرور و معمور ہوتے رہتے ہیں تو اہل دل کی محفلیں ان کے تذکرے سے سرشار و معمور نظر آتی ہیں۔

حضرت حسانؓ کے بعد سے آج تک عشق رسولؐ، ذکر رسولؐ کو اپناب سے پسندیدہ مشغله بنائے ہوئے ہیں، شعر اشعار میں، ادیب ادب و انشاء میں، خطیب خطابت میں، واعظ مواعظ میں، صوفیا تصوف میں، اہل قلم طرز نگارش میں، مصنفوں اپنی تصنیفوں میں، اور معلمین تعلیم و تربیت کے میدانوں میں اسی مبارک نام اور اسی پاکیزہ

(۱) آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کی ماں نے آج تک نہیں جانا، آپ ہر عیب سے بری پیدا کئے گئے ہیں، جیسے خود ہی اپنی مرثی کے مطابق پیدا ہو گئے ہوں۔

(۲) شاعر دربارِ بُویٰ حضرت حسان بن ثابتؓ آپؓ کی ولادت کے وقت سات یا اٹھو برس کے تھے، آپ کی ولادت کے چرچے بھی سنئے ہوئے تھے، آپؓ کو شروع سے آخر تک دیکھے ہوئے تھے، یہ اشعار انہوں نے آپؓ

تذکرہ سے وزن پیدا کرتے اور رنگ جاتے ہیں، رزم و بزم اسی کی روشنی سے روشن کئے جاتے ہیں، معرکے اور مہمین اسی کی قوت سے سر کی جاتی ہیں، محدثین تو خیر دن رات انہیں کے ذکر میں مصروف ہیں، مفسرین کی گاڑی بھی انہیں کے سہارے چلتی ہے، فقہاء انہی کی نسبت سے اعتماد حاصل کرتے ہیں، مجاہدین انہی کے وعدوں پر نذر انہوں جان لئے مقتل ڈھونڈتے ہیں، عابدوں کو عبادت اور زاہدوں کو آخرت کی رغبت پر انہی کی پیاری باتوں نے لگایا ہے۔

کاملین و اصلین کا ماننا تو ہے ہی کہ زندگی ان کے تصور میں رہنے کا نام ہے، ہم جیسے عاجزو ناقص بھی ان کی یاد کے بغیر زندگی کو بے لطف و بے کیف ہی محسوس کرتے ہیں۔ واقعی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو یادوں کی وادیوں میں کھوئے ہوئے رہنے کو جی چاہتا ہے، دل اس قدر بیتاب ہوتا ہے کہ بس چلے تو سینے کی سلاخوں کو توڑ کر مدینے کے نظاروں سے چھٹ جائے، عقل ان سے ملنے کیلئے الا موت یہاں فاشتریہ (۳) کی صد الگاتی ہے تو عشق ان پر پثار ہونے کے لئے اب کی مخافہ ان تطول حیاتی (۴) کے گن گاتا ہے۔ ہائے! ابو طالب آپ ایمان تو نہیں لائے لیکن ایمان والوں کے قلوب کو یہ کہہ کر ترپا گئے۔

وابیض یستسقی الغمام بوجهہ

ثمال اليتامی عصمة للارامل (۵)

اللہ اللہ! کیسی پیاری ہے وہ ہستی، کتنی حسین ہیں اس کی ادائیں، اور کس قدر خوبصورت ہیں اس کی باتیں، جس کے نام مبارک کا تنقیح بھی اس کو بوسہ دیئے بغیر منہ کے سامنے کہے ہیں، اگر اس میں شاعرانہ مبالغہ آرائی ہوئی یا یہ دعویٰ خلاف واقعہ ہوتا تو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سکوت نہ فرماتے، انہیں داد دیتے، آپ کا سکوت اور آپ کی پسند بلاشبہ جنت و سنت ہے، پس ان اشعار میں کہی گئی باتیں حقیقت کا اقرار ہیں صرف عقیدت کا اظہار نہیں۔ واللہ اعلم (۳) کسی مصیبت زدہ عرب کی ریاضی کا مصرع ہے وہ نامرا دکھر رہا ہے کہ کہیں موت نہیں بک رہی ہے کہ میں اسے غریبوں۔

سے ادا نہ ہو سکے، جس خدا نے اس کے نام میں اتنی چاشنی اور مٹھا س رکھی ہے اُس نے خود اس کی ذات و صفات کو کس قدر جاذب و پُر کشش بنادیا ہوگا؟ کہنے والے نے کیا خوب کہا اور بالکل صحیح کہا۔

صورتِ تریِ معیارِ کمالاتِ بنا کر
دانستہ مصور نے قلمِ توڑ دیا

عہدِ صحابہؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا "حسن و جمال" ان کی محفلوں، بیٹھکوں اور گفتگوؤں کا دل چسپ اور پسندیدہ ترین موضوع ہوتا تھا، بعد وائلے لوگ تو ان سے فرمائیں کر کے بڑے شوق سے جمالِ رسولؐ کا تذکرہ سنتے ہی تھے خود صحابہ کرامؓ بھی آپس میں بیٹھ کر اس شراب طہور سے لطف اندو ز ہوا کرتے تھے۔

بلکہ خود آپ کے طرزِ عمل سے ان کو اس کی ترغیب ملی تھی، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ منبر پر چڑھے، اور لوگوں سے سوال کیا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں! آپ نے فرمایا: (میں رسول تو ہوں ہی) "میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی تمام مخلوقات میں بہتر مخلوق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر انسانوں میں کے بہترین گروہ عرب میں پیدا کیا، پھر عرب کے بہترین قبیلہ یعنی قریش میں بنایا، پھر قریش کے بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں پیدا کیا، پس میں ذات کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔" (۶)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے خود اپنے عمل سے اپنے مقام و مرتبے کے تذکرہ کو مشروع بلکہ مسنون کر دیا ہے۔

(۳) صدیقہ عائشہؓ نے تربتِ رسولؐ پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے بعد اب زندگی میں کوئی بھلاقی نظر نہیں آتی اسلئے اس خوف سے روئے جارہی ہوں کہ کہیں زندگی بھی نہ ہو جائے۔

(۴) ابوطالب نے آپ کی شان میں کہا ہے وہ خوبصورت جس کے ویلے سے بادلوں سے باڑش طلب کی جاتی ہے جو تیبیوں کا سہارا اور بیواؤں کی آبرو ہے۔

حضرت ہند بن ابی ہالہ، حضرت خدیجہؓ کے بیٹے اور ربیب رسولؐ ہیں، انہوں نے اپنے بابا کوشور کے دور سے دیکھنا شروع کیا اور ان کے پرده فرمانے تک دیکھتے ہی رہے، اسلئے آپ کے شہائی بہت تفصیل سے بتاتے تھے اور وصاف رسولؐ کہلاتے تھے۔ حضرت حسنؑ بن علیؑ تو اس سے رسولؐ ہیں، انہوں نے اپنے نانا کو کم شوری میں دیکھا تھا اور چند برس ہی دیکھ سکے تھے، نانا کی یاد آتی تو دیدار کی پیاس ستانی تھی، اپنے ماںوں کے پاس جاتے اور فرمائش کر کے جمال رسولؐ کے مذاکرہ سے اپنا دل بہلا لیا کرتے تھے۔ (۷) کسی بھی شخصیت میں شان قبولیت و محوبیت عموماً تین صفات سے پیدا ہوتی ہے۔ جمال، کمال اور نوال، سرور عالم، محبوب اعظم، نبی اکرم سیدنا و مولانا و محبوبنا حضرت محمد عربی و فرشتی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں صفات بدرجہ اتم موجود تھیں۔

✿ حسن و جمال کی تعریفوں سے تو احادیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، محدثین کی اس موضوع پر مستقل تصنیفات بھی ہیں، امام ترمذیؓ کی "شہائی" عالمی شہرت کی حامل ہے، اردو میں بھی اس کے تراجم منثور و منظوم موجود ہیں۔

کچھ تفصیل اس جمال مبارک کی اس رسالہ کے آخر میں دیکھ لیجئے اور اگر پیاس بڑھ جائے تو سیرت کی بڑی کتابوں میں تفصیل سے پڑھئے اور بار بار پڑھئے۔

✿ جہاں تک کمال کا تعلق ہے تو یہ ہر مومن کا ایمان اور ہر عالم کا ایقان ہے کہ اولین و آخرین کو اللہ پاک نے جتنے کمالات علم و عمل اور اخلاق و اقدار کے عطا فرمائے تھے آپ ان سب کے جامع ہی نہیں کامل و مُکمل بھی تھے۔

حسن یوسف، دم عیسیٰ یہ بیضا داری

آنچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری (۸)

(۶) ترمذی: (۷) نظرۃ النعم: ۳۲۳/

(۸) حضرت یوسفؓ کا مثالی حسن ہو کہ حضرت عیسیٰؓ کا مجرماً سانس یا حضرت موسیؓؑ کے ہاتھ کا چمکنا غرض تمام انبیاء کی جو منفرد خوبیاں تھیں وہ سب آپ کی ذات میں اکھٹی ہیں۔

کمال علم کی بات دیکھنی ہو تو اوتیت علم الاولین والآخرین (۹) میں، کمال خلق کا معاملہ ہے تو بعثت لا تم مکارم الاخلاق (۱۰) میں، کمال قرب کا مسئلہ ہے تو ٹمَّ ذَنْبِي فَتَدَلَّى (۱۱) میں اور کمال اوصاف و عادات کا معاملہ ہے تو ادبی رہی فاحسن تادیبی (۱۲) میں غور کرتے جائیے، جتنا غور کریں گے اعتراف و اقرار کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔

﴿رَهْبَئِي "نوال" یعنی جود و سخا کی بات تو سبحان اللہ! کس کے قلم کو یارا اور زبان کو قوت ہے کہ اس سخی داتا کی سخا و عطا کا احاطہ کر سکے جو اپنی امت کو کھلائے بغیر خود کھانہ سکتا ہو، جو اپنے گھر میں ایک درہم کا باقی رہ جانا گوارانہ کر سکتا ہو، جو حاجت کو سننے کے بعد اپنے جسم کا کرتا بھی اتار کر دیدیتا ہو، اور وہ جس کے در سے ہزاروں چولے جلتے اور سینکڑوں پیٹ بھرتے تھے مگر خود کے گھر میں مہینوں تک پکانے کے قابل کوئی چیز نہ آتی ہو، اور مختصر یہ کہ جس کی سخاوت کے ہاتھوں پر اس کے پروڈگار کو لا تبُسْطُهَا كُلُّ الْبُسْطِ (۱۳) کی روک لگانی پڑی ہو، ہم دانشمندانے بے دانش اس کی جود و عطا کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی دیکھنے والوں نے سب کچھ بیان کر دیا اور لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ ریکارڈ کر لیا ہے، ضرورت تو بس پڑھنے اور سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی ہے، جس کے فقدان نے آج امت کو پیش کی اس سطح پر گرا دیا ہے، جس کو پہلے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ فالی اللہ المشتکی۔

قصہ مختصر یہ کہ حبُّ رسولُ اور ذکر رسولُ اگر جزو ایمان، وسیلہ نجات اور اشرف العبادات نہ ہوتا تب بھی آپ کے جمالات، کمالات اور نوالات بذاتِ خود مونین کے قلوب کو اپنی جانب مائل کر کے گردیدہ بنایا لینے کیلئے کافی تھے۔

(۹) مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا۔ (۱۰) میں ابھے اخلاق کی تھیمل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

(۱۱) پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا

(۱۲) میرے رب نے میری تربیت کی اور کیا ہی عمده تربیت کی۔

ز فرق تا بہ قدم، ہر کجا کہ می گرم
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا ایں جا است (۱۲)

چہ جائے کہ نصوص قطعیہ اور دلائل واضح سے آپ کی محبت کو محبت خداوندی کا، آپ کی ذات و صفات اور آداب کی معرفت کو حفاظت دین و ایمان کا، اور آپ کی تعلیمات کی اپیاء کونجاتِ آخری اور دارین کی سرخروئی کا موقف علیہ قرار دیا گیا ہے تو خود ہی غور کرنا چاہئے کہ آپ کی ذات و صفات اور تعلیمات یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور ان سے واقفیت مسلمانوں کا کتنا بڑا اور کس قدر اہم فریضہ ہے؟

امام ابن قیم "انی معرکۃ الاراء تصنیف "زاد المعاذ" کے افتتاحیہ میں "معرفت رسول بندہ کی سب سے اہم ضرورت ہے" کے عنوان سے ایک فصل قائم کر کے رقم طراز ہیں: (۱۵)

"اسی سے معلوم ہو گیا کہ بندوں کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت جو تمام ضرورتوں سے مقدم اور اہم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی تعلیمات کی معرفت، ان کی خبروں کی تصدیق اور ان کے احکام کی تعمیل ہے، اس لئے کہ دنیا و آخرت دونوں کی فوز و فلاح اسی میں ہے، اچھے برے کی تمیز بھی انہی کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے، رضاۓ الہی کا حصول بھی انہی کے طریق سے ہوتا ہے، ان کے اعمال و اقوال اور اخلاق اس قدر پاکیزہ ہیں کہ انہیں کو اخلاق و اعمال اور اقوال کے پرکھنے اور اچھے برے میں تمیز کرنے کا پیانہ بنادیا گیا ہے، اور انہی کی متابعت اہل ہدایت کو اہل ضلالت سے ممتاز کرتی ہے۔ پس امت کو نبی کی معرفت کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے جتنی کہ بدن کو روح کی، آنکھوں کو روشنی کی، اور روح کو زندگی کی ضرورت ہے، پس بندوں کو دنیا میں جتنی چیزوں کا محتاج بنا یا گیا

(۱۲) ایک لڑکا آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری والدہ کو قیص کی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا میرے پاس اس وقت بس بھی قیص ہے جو میں پہنانا ہوا ہوں، اس نے ناچھی سے کہدیا کہ بھی میری والدہ کیلئے دید بیجے تو آپ نے اتار کر دیدیا، اس موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور پابند کیا کہ اپنا ہاتھ سخاوت میں اتنا نہ کھول دیجئے کہ گھر میں مجبور ہو کر بیٹھ جانا پڑے۔ (سنن بیہقی ۲۲۵)

ہے ان میں سب سے اہم اور بڑی ضرورت جو ہو سکتی ہے وہ بندوں کا اپنے رسول کا
محتاج ہونا ہے۔ اگر مومن پل جھپکنے کے بقدر بھی نبی اور اس کی تعلیم سے غافل رہتا
ہے تو اس کا دل اجڑ جاتا ہے اور وہ ماہیٰ بے آب کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ
تر ڈپنے لگتا ہے، مگر اس مفارقتِ رسول کا احساس اور اس کے نقصان کا اندازہ
صرف اسی قلب کو ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، کیوں کہ مردے کا دل زخمیوں کی تکلیف
محسوس نہیں کر سکتا، غرض جب یہ بات ثابت ہوئی کہ آدمی کی سعادت دارین نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے وابستہ ہے تو ہر اس شخص پر جو اپنے آپ کا خیر خواہ
اور اپنی نجات و سعادت کا متنبی ہے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت
سے واقعیت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو سنوار لے، تاکہ ان کے
تمبین کے گروہ میں شامل ہو سکے، تاہم اس بارے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی
غلو کا شکار ہے تو کوئی تفریط کا مجرم اور کوئی بد قسم توسرے سے محروم ہی ہے۔^(۱۶)

آج بھی امتِ مسلمہ میں یہ تینوں طبقے موجود ہیں، جن کی جانب امامؐ نے اشارہ
کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تحقیقِ اینیق کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینے اور بے جاتا ویلات کو
چھوڑ کر اپنے نبیؐ کی سچی محبت اور پیغمبری اطاعت کو اختیار کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
بہر حال عرض کرنا یہ ہے کہ پوری امت کے نزد دیکھ بھت رسول جزا ایمان بلکہ
ایک حیثیت سے عین ایمان ہے، اور ذکرِ رسول اُول العبادات ہے، مگر اس مادیت پرستی
اور خود غرضی کے دور میں ”حُبُّ رَسُولٍ“ اور ”ذِكْرِ رَسُولٍ“ کی متاع دن بہ دن نایاب ہوئی جا رہی
ہے، جہاں محبت کی باتیں ہیں وہاں ابلہ فربی اور طفل تسلی کے علاوہ کچھ نہیں، اور جہاں
شریعت کے دعوے ہیں وہاں قاعدے قانون کی باتوں سے زائد کوئی شے نہیں ہے۔^(۱۷)

(۱۴) سرسے لے کر پیغامِ ذات مبارک کو جہاں کہیں دیکھتا ہوں، ان کی ہر اولاد کو اپنی طرف مائل
کر لیتی ہے کہ قربان ہونے کے قابل میں ہوں۔

(۱۵) علامہ موصوف نے اس سے قبل ایک طویل بحث اس پر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہر
جن میں سے صرف طیب اور پاکیزہ کو پسند فرمایا ہے، اسی سنت کے مطابق ظاہر ہے کہ بندوں میں سے

یعنی اگر شریعت کا پاس ہے تو محبت کا احساس نہیں، محبت کا احساس ہے تو شریعت کا پاس نہیں! خلفائے راشدین، صحابہ و تابعین، ائمہ مفسرین، فقہائے مجتہدین اور اولیائے کاملین سب کے سب شریعت و محبت، عقیدت و اطاعت کے جامع تھے، ان میں سے ہر ایک

بر کے جام شریعت بر کے سنداں عشق^(۱۷)

کی منہ بلوچی تصویر تھا، اوپر سے نیچے تک سلف و خلف کی تاریخ پڑھ جائیے ہر ایک کی زبان حال یہی کہتی ملے گی۔

بمحضٹے برساں خویش را کہ دین ہمہ اوست^(۱۸)

یہ راقم عاجزو عاصی اگرچہ کہ علم و عمل میں بہت کوتاہ ہے مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اور اس کرم کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے امت کے اس طبقے سے وابستہ فرمایا جس کے اکابر مسلک معتدل کے حامل، شریعت و طریقت کے جامع اور توحید و سنت کے ناشر ہیں، نہ ملاۓ خشک ونا، ہمارہ ہی نام نہاد عاشق زارو بے اطوار! نہ ہی عالم بے عمل اور نہ عامل بے علم! ان کا اعتقاد و مسلک یہ ہے کہ محبت بلا اتباع رسول اور اتباع بلا محبت رسول دونوں گمراہی کے راستے ہیں، وہ صحابہ کرام^{علیہم السلام} اجمعین کو اپنے عقیدہ و عمل کا معیار بنائے ہوئے ہیں کہ کامیابی و نجات کا راستہ محبت کاملہ کے ساتھ اتباع کامل کے علاوہ کوئی اور نہیں!^(۱۹)

ان آنکھوں نے — کسی دوسرے کی تحقیر و تنقیص کئے بغیر — اپنی زندگی میں اپنے ان بزرگوں سے زیادہ کسی کی آنکھوں کو عشقِ محمدی کے جلوؤں سے مخمور، قلوب کو دردِ محبت سے چور چور، اور شب و روز کو اتباع سنت میں مصروف و مشغول نہیں دیکھا ہے۔

بھی طیب بندوں کو پسند فرماتا ہے اور طیب بندے صرف وہی ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہوں۔^(۲۰) (زاد العادیں: ۲۵) ہمارے تمام اکابر اہل سنت اسی رنگ و مزاج اور اعتقاد کے حوالی ہیں، کتابوں میں ان کی ایسی پیشگار اور موثر عبارات موجود ہیں، میں نے صرف امام ابن قیمؓ کی ایک عبارت دو مصلحتوں سے پیش کی ہے، ایک تو اسلئے کہ یہ جامع و مانع ہے، دوسرے آج کل کچھ لوگ توحیدی رنگ کے غلبہ کا بہانہ بنا کر محبت کے تذکرہ کو

ہاں! وہ جذبات پر تعلیمات کو اور جوش و خروش پر ہوش کو غالب رکھتے ہیں، جبکہ یہ بھی
سنّت رسول ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم

بھی بھی ہے گولبوں پر ہر دم، چشم بھی میری تر نہیں ہے
مگر جو دل رورتا ہے پیغم، کسی کو اس کی خربنیں ہے

غرض ان بزرگوں کی محبت اور ان کی تصنیفات کے مطالعہ نے فکری اور اعتقادی طور پر اسلام کی جو صراطِ مستقیم دکھائی ہے اس کی روشنی میں اور اسکی برکت سے الحمد للہ یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ایک مونک کو ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور اور اس کے تذکرہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز مرغوب و محبوب اور لطیف ولذینہ محسوس نہیں ہوئی چاہئے، بیٹک یادِ الہی اور ذکرِ خداوندی سب سے بڑی چیز ہے ولذکر اللہ اکابر نص قطبی ہے مگر اس کو کیا سمجھے کہ اس کا علم بھی ہم انجانوں کو نبی ہی کے ذریعہ ہوا ہے اور وہ مقبول بھی اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ رضائے الہی کا حصول۔۔۔ جو اصل الاصول اور تمامِ مجاہدات، ریاضات و عبادات کا واحد مقصود ہے۔۔۔ وہ بھی اسوہ نبیوی کی متابعت پر موقوف ہے اور موقوف علیہ مقصود پر مقدم ہوتا ہے جیسے کہ مقصودِ نماز ہے مگر وضواس سے مقدم ہے، پس معلوم ہوا کہ جس قدر بندہ کو نبی سے وصل و قرب حاصل ہوتا جاتا ہے اسی قدر بارگاہ و خداوندی میں باریابی و نزدِ یکی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔

ہاں! نبی کے تقرب کیلئے ان کی محبت اور اتباع، محبت و اتباع کیلئے ان کی معرفت اور معرفت کیلئے مطالعہ نیسرت کا جو تلازم ہے وہ اہل علم و عقل سے مخفی نہیں ہے۔۔۔ چنانچہ خیر القرون میں نیسرتِ طیبیہ کا نہ اکرہ اور بعد کے ادوا میں اس کا مطالعہ تمام اہل اللہ کی نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر جو رنگ کے غلبہ کا بہانا بنا کر اتباع کی باقیوں سے بے احتیاطی بر ت رہے ہیں، اور یہ عبارتِ دونوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔

(۱۷) ایک ہاتھ میں شریعت کا پال دوسرے میں عشق کا ہٹھوڑا۔

(۱۸) اپنے دامن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو کیوں کہ دین، اس علم و عمل میں آپ کی نسبت ہی کا نام ہے۔

ترنجی مصروفیت رہی ہے۔ مگر اس شر القرون میں جس میں کہ ہم جی رہے ہیں اس عظیم و با برکت مشغله کو بہت حد تک ترک کر دیا گیا ہے، اور نی نسل کو تو اس موضوع سے گویا کسی قسم کی دلچسپی ہی نہیں، جس طبقے کو دین و عمل کی توفیق طی ہوئی ہے افسوس کہ وہ بھی تقریر تحریر کی ضرورت کے بعد رسمت النبی کا مطالعہ کر لیتا ہے، اس سے آگے اپنی مستقل ضرورت و حاجت سمجھ کر اور تقاضہ محبت کے طور پر اتنا اہتمام بھی نہیں رکھتا جتنا کہ اخبار دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ گویا اباطہ کو چھوڑ کر ضابطہ کے تعلق پر اکتفاء کر لیا گیا ہے۔ فیما حسرۃ علی العباد

خیر! یہ داستان غم بہت طویل بھی ہے بہت لخراش بھی! اس وقت اس میں الجھے بغیر صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس سال ربیع الاول کے مہینے میں ”عید میلاد“ کے عنوان سے ہونے والے اعمال اور جلسوں جلوسوں کی اہتمامات تھیں کو دیکھ کر دل میں بڑی شدت سے یہ بات آتی رہی کہ اس بے راہ روی اور بے اعتدالی کا حل اور اس کا بہتر علاج اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی صحیح معرفت کرائی جائے، اسلئے کہ محبوب کا علم اور اس کی معرفت اگر ناقص ہے تو جذبات محبت کی بیساکھیوں سے محب اپنے محبوب تک پہنچنے اور عاشق اپنے معشوق کا وصل و قرب حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خود سرورِ عالم محبوب اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میری پوری امت جنت میں داخل ہو گی سوائے نافرمانوں کے، پوچھا گیا
نافرمان سے کون مراد ہیں؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور

(۱۹) حکیم الامت حضرت خانویؒ کا مخطوط کہیں نظر سے گزارا تھا کہ قرآن کریم میں صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اور ”صحابہؓ کا ایمان عاشقانہ تھا فلسفیانہ نہیں“ یعنی صحابہ کرامؓ کے ایمان کی پیشگی اور اتابع کے کمال کا راز یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحث و تجویض کے نتیجہ میں نہیں مانا تھا خصیت کے کمال اور شرافت و صداقت کے دوام سے متاثر ہو کر ان پر ایمان لائے تھے، بلکہ بعض تو تھوڑی آپ کے چہرہ مبارکہ کو دیکھ کر ہی ایمان لائے تھے۔

جس نے میری نافرمانی کی تو وہی نافرمان ہے۔^(۲۰)

اپنے سینوں کو کیوں سے پاک رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے ایک اور موقعہ پر ارشاد فرمایا:

”یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔^(۲۱)

ایک مرتبہ مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا:

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری شریعت کے تالیع نہ کر دے۔^(۲۲)

یہ اور ان حیثیتی بُشمار احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام گمراہیوں اور بے راہ رویوں کی جڑ سرچشمہ ہدایت سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات و صفات اور مبارک تعلیمات سے بے خبری اور دوری ہے، اس لئے جی چاہتا ہے کہ امت کا ہر ایک فرد بالخصوص موجودہ نسل کے نوجوان اور بچے کم از کم ایک دفعہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، حق تعالیٰ شانہ کی رضا و خوشنودی بھی ہے، آلام و آفات کا دفعیہ بھی ہے، ہر قسم کی گمراہیوں اور بعد عملیوں کا اعلان بھی ہے۔^(۲۳)

لیکن اس کیلئے کسی ایسے رسالہ کی ضرورت تھی جو مختصر بھی ہو آسان بھی ہو، مستند بھی ہو، علمی مباحث اور دقیق اصطلاحات سے خالی بھی ہو، تاکہ اول تا آخر بلا کسی رکاوٹ کے پڑھ لیا جاسکے، اور اس کا پڑھنا سیرابی کے بجائے ^{تفصیلی} بڑھنے کا سبب ہو جائے، کیونکہ یہ وہ پیاس ہے جو بچھ جائے تو گویا زندگی کا چراغ بھی بچھ جاتا ہے اور اگر بڑھ جائے تو حیاتِ نول ملتی چلی جاتی ہے۔

(۲۰) بخاری کذافی مکملہ: ۲۷، (۲۱) ترمذی کذافی مکملہ: ۳۰، (۲۲) شرح السنیۃ کذافی مکملہ: ۳۰

(۲۳) میں تین سال سے دیہات کے مسلمانوں کو ہر سال جمع کر کے دن بھر سیرت طیبہ سنائی کر اس برکت کا مشاہدہ کر رہا ہوں جو اس مبارک تذکرہ میں حق تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔

میں نے آج سے پچھس سال قبل ریج الاؤ سن ۷۰ء بھری میں ایک مختصر سارسالہ ”مقالہ سیرت“ کے نام سے حصول سعادت و برکت کی غرض سے لکھا تھا وہ اسی وقت شائع بھی ہوا تھا، خیال ہوا کہ یہی رسالہ پھر چھاپ کر عام کیا جائے، مگر جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو بہت ہی محدود و مختصر پایا کہ اس سے مقصود کا حصول مشکل تھا، اسلئے اس رسالہ میں کچھ حک و فک کر کے اسی کو زیریج جامع و مانع بنادینے کے ارادہ سے کام شروع کیا، مگر جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عنوان ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں ایک مومن کا دل اختصار پر رضا مند نہیں ہوتا، اس کام کے دوران لکھنا کم پڑھنا زیادہ ہوتا رہا، جب سیرت طیبہ کو پڑھنے لگتا تو لکھنے کا خیال ہی دھیان سے نکل جاتا اور جب لکھنے میٹھتا تو پڑھنے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی۔ اسی میں کافی وقت نکل گیا، درمیان میں اپنی دیگر ذمہ داریوں اور اسفار کے رخنے علاحدہ آتے رہے، بالآخر ۵۰ ریج الاؤ کو شروع کردیں جدید ترتیب کا یہ کام آج ۳۰ ریج الشانی کو مکمل ہوا، مگر مختصر مقالے کے بجائے مستقل اور بہت حد تک جامع رسالہ ہو گیا ہے۔

میں نے متن میں زبان کو عام فہم رکھنے کی بہت کوشش کی ہے، اس کے لئے تین تین مرتبہ نظر ثانی اور تغیرات کرتا رہا، البتہ تقدیم اور حواشی میں اس کی رعایت نہ ہو سکی۔ خدا کرے کہ یہ سعی امت مسلمہ کیلئے نافع ہو، اور جس غرض سے میں نے اس کے پیچھے بہت کاموں کو نظر انداز کر کے سفر و حضر کی میں یوں راتوں کا بڑا حصہ صرف کیا ہے وہ غرض پوری ہو، یعنی قارئین کو اپنے محبوب آقادارین کے راہنماء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی معرفت حاصل ہو جائے، اسی کے ساتھ انہیں تفصیل سے جانے سمجھنے اور ماننے کا ایسا جوش اٹھے جو موت کی بیکھی تک ختم نہ ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علی سید المرسلین و امام المحبوبین برحمتک یا رحم الرحمین۔

آخر میں دو باتیں اور لکھنا ضروری سمجھتا ہوں، اول یہ کہ اس رسالہ کی ترتیب میں

میرے سامنے عربی کتب میں سے ”سیرت ابن ہشام، البدایہ والنھایہ، زادالمعاد، اور نظرۃ النعیم“ اور اردو کتب میں سے ”سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، اور نشرۃ الطیب“ رہیں یہی سات کتب اس رسالہ کے مندرجات کا حوالہ ہیں۔ چونکہ یہ کوشاں عوام الناس کیلئے کی گئی ہے اس لئے جگہ جگہ حوالہ کا اہتمام نہیں کیا گیا، اہل علم اگر کوئی سقم محسوس فرمائیں تو ضرور مطلع فرمائیں، رجوع الی الحق سے انشاء اللہ کوئی ابانتہ ہوگا۔

دوسرے یہ کہ اس رسالہ کی کتابت کا کام عزیزم مولوی سید خواجہ نصیر الدین قاسمی سلمہ نے بہت ہی ذوق و شوق اور سلیقے سے انجام دیا ہے، میری تحریر کا خط مشکل ہے سب سے پڑھا بھی نہیں جاتا، اس پر غضب یہ کہ رد و بدل اور حک و فک کا ملبہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزاً خیر عطا فرمائے، ان کی مرادوں کو بر لائے۔ آمین
قارئین کی دعاوں کا محتاج

محمد عبد القوی

شرط محبت

قُلْ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي
يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

آپ فرمادیجئے! (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے (واقعی) محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو (تب جا کر اللہ تعالیٰ کی محبت معتبر ہوگی) اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائے گا اور تہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بخششے والا ہم رہا ہے۔

(آل عمران: ۳۱)

ذکر حبیب

قبل ولادت مبارکہ - دنیا کی ایک معاشرتی جھلک :-

چھٹی صدی عیسوی میں یہ دنیا نہایت تاریک دور سے گذر رہی تھی، شرک و بُت پرستی تو عام ہوئی چکی تھی، انسانیت کا نام و نشان بھی متاجرا ہاتھا، غیرت و حمیت نابود ہو چکی تھی۔ فتنہ و فساد، قتل و غارتگری طبیعتِ ثانیہ بن گئی تھی۔ شرافت و نجابت دم توڑ رہی تھی، امیروں کی غریبوں پر اور طاقت والوں کی کمزوروں پر حکومت چل رہی تھی، انصاف نے بھی عاجز ہو کر ظلم کے آگے ٹکست قبول کر لی تھی، اسباب کوار باب کا درجہ دے لیا گیا تھا۔ خیالی تصویروں، جھوٹے معبدوں، درختوں، پتھروں اور جانوروں حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں تک کی پرستش کی جا رہی تھی۔ شراب اور جو چھٹی میں پڑا ہوا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، قافلوں کو لوٹ لینا، معصوم و بے گناہ افراد کو قتل کر دینا، رائی کا پھاڑ پنا کربات بات میں جھگڑتے رہنا ان لوگوں کا محبوب ترین مشغله بن گیا تھا، جس کی وجہ سے معمولی معمولی لڑائیوں کو برسوں کی جنگ میں تبدیل کیا جا رہا تھا۔ جہالت و ناخواندگی عام ہو چکی تھی، مالدار اور حکمران لوگ لوٹ کھسٹ اور ظلم و زیادتی کے ذریعہ عیش و عشرت کرنے میں حیوانیت اور جانور پن کی حدود کو پھاند چکے تھے، ان حالات سے بیزار ہو کر عام لوگ شہری مصروفیات کو چھوڑ کر صحراءوں میں نکل جانے اور عبادت خانوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کہیں غربی اور معاشری تنقیب کے خوف سے پچ قتل کئے جا رہے تھے، اور کہیں قرضے چکانے کے لئے انھیں فروخت کیا جا رہا تھا، کسی جگہ شوہر اپنی بیویوں کو جوئے میں ہار رہے تھے، عورت کی قیمت گھر کے ساز و سامان سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی، کبھی وہ کسی سے خوش ہو کر اس کو تخفہ میں دے دی جاتی

تو کسی وقت و راشت میں منتقل ہو جاتی تھی بہادری، جفا کشی، ہمت و عزیت جیسی صلاحیتیں ان لوگوں میں موجود تو تھیں مگر یا تو وہ حاکموں کے ظلم تلے دبی ہوئی تھیں یا پھر خاندانی برتری جتنے میں اور فخر و غرور جیسی مذموم حرکتوں میں استعمال ہو رہی تھیں۔ مختصر یہ کہ انسانیت چہالت و ضلالت کے مہیب سایہ تلے کراہ رہی تھی اور بد کرداری و بد اخلاقی کی گھٹائوب تاریکی اس پر چھائی ہوئی تھی۔^(۱)

ولادت باسعادت:-

جب دُنیا کا یہ عالم ہو گیا اور دن بہ دن حالات مزید بُڑتے چلے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے قانونِ ہدایت کے مطابق انسانیت کے اس بھلکے ہوئے قافلہ کو سیدھا راستہ دکھلانے اور اپنے بندوں کو نورِ ہدایت سے منور فرمانے کیلئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اذیلی فیصلہ ظاہر فرمادیا۔ چنانچہ مکہ معظّمہ میں ابرہہم کے مشہور واقعہ^(۲) سے پچاس دن بعد ۹ ربیع الاول عام الفیل^(۳) مطابق ۲۱ اپریل ۱۷۵۴ء پیر کے دن صحیح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے قبل چودہ سالاً پہوچ حضرت آمنہؓ کے بطن مبارک سے ۱۲۳ مسالہ عبد اللہ مرحوم کے بیٹے سید الشفیعین، سرور کوئین، سیدنا و مولانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چمنستانِ عالم میں اپنی تمام خوبیوں اور برکتوں کے ساتھ رونق افروز ہو گئے۔

انقلابِ عالم کے آثار:-

اب کیا تھا؟ اہل عالم کی قسمت چک گئی، مایوسیاں آس میں تبدیل ہو گئیں، دُنیا کا

(۱) ان حالات کو تفصیل سے جانتے کیلئے مفکر اسلام مولا ناسید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم“ ص: ۱۱۲۳۸ کا مطالعہ بہت مفید ہو گا۔

(۲) یہ واقعہ آگے تفصیل سے آرہا ہے۔

(۳) ابرہہم ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا، ہاتھی کو عربی میں ”الفیل“ اور سال کو ”عام“ کہتے ہیں اسی مناسبت سے اس سال ”عام الفیل“ یعنی ہاتھی کے واقعہ والا سال کہا جاتا ہے۔

کا اندر ہیر اروشنی دنورانیت میں بدل گیا، ایوان کسری^(۲) کے کنگرے گر پڑے، آتش کدہ فارس^(۵) بچھ گیا، نہر سا وہ^(۶) خشک ہو گئی، صنم خانے اور بُت کدے خاک میں مل گئے، نجومیوں کے دل و حرم کرنے لگے، منتظرین^(۷) کا انتظار دور ہوا کہ بھلکتی انسانیت کو بے مثال قائد اور کامل رہی مل گیا۔

حافظتِ دین کی ایک جھلک :-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں کے ایک گورنر "ابرہہ" نے یمن کے مشہور شہر "صنعاء" میں بادشاہ جبشہ کیلئے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی، جس میں ایک گرجا گھر بھی بہت خوبصورت اور عمدہ بنوایا تھا، اس کی تمنا تھی کہ جس طرح لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کیلئے ہر سال جمع ہوتے ہیں، اسی طرح اس گرجا گھر کے دیکھنے کے لئے بھی اطراف و اکناف سے لوگ آیا کریں، جب اس کا یہ ارادہ علاقہ کے لوگوں میں مشہور ہوا تو یہ بات عربوں کو سخت ناگوار ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے مقابلہ میں کوئی اور گھر ایسی ہی تنظیم کیلئے بنایا جائے جیسے کعبہ کی ہوتی ہے، ایک کنانی شخص نے کوئی موقع دیکھ کر اس گرجا گھر میں جا کر غلاظت کر دی۔ اس حرکت پر "ابرہہ" کو طیش آنا فطری امر تھا، ابرہہ غضبناک ہوا اور ٹھان لیا کہ اس کے جواب میں میں کعبۃ اللہ کو منہدم کر دوں گا، اس ارادہ سے بہت بڑا شکر لے کر مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہوا، راستہ میں جن لوگوں نے اُسے روکنے کی کوشش کی انہیں شکست دیتا ہوا مکہ مکرمہ پر ہو چکیا۔ مکہ کے سردار عبدالمطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ کعبہ کا رب خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ البتہ دعا کا اہتمام کیا اور کروا یا، جس دن

(۲) ایوان محل کو کہتے ہیں، کسری ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، کہتے ہیں کہ جس صحن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اسی رات کسری کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر گئے۔

(۵) اپریانی لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے، وہاں ایک خندق بنی ہوئی تھی جس میں ایک ہزار برس سے آگ جل رہی تھی کبھی بچھی نہیں تھی، جس رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ آگ بیسٹہ کے لئے بچھ گئی۔

حملہ کے ارادہ سے ابرہہ اپنے خیمہ سے نکلا اس کا ہاتھی ضد میں آ کر راستہ میں بیٹھ گیا اور قدرت خداوندی نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعہ اس پر اور اس کے لشکر پر ایسی کنکریاں برسائیں کہ سنجل نہیں پائے، بتاہ و بر باد ہو گئے۔ اس تاریخی اور عبرتاک واقعہ کے پچاس دن بعد آپ کی پیدائش ہوئی۔

اسم گرامی:-

والدہ محترم نے غیری بشارت سے آپ کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پُر مسرت خبر پہنچی تو نہایت ہی مسرت و خوشی کے عالم میں حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لے کر حرم محترم ہیو نے، کعبۃ اللہ کے اندر لیجا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتویں دن عقیقہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تجویز کیا، لوگوں نے خاندانی روایت کے برخلاف اس عجیب نام پر تعجب کا انہیا کیا تو عبدالمطلب کہنے لگے کہ ”میرا یہ بچہ عجیب شان کا ہونے والا ہے“ مطلب یہ کہ ایک نام ہی ان کا نرالا نہیں بلکہ ہر ادا نرالی ہے۔

نسب مبارک:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد ما جد کی طرف سے اس طرح ہے:
 (سیدنا و مولانا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔

اور والدہ ما جدہ کی طرف سے اس طرح ہے۔

(۲) سادہ ایمان ہی کی ایک نہر کا نام ہے۔

(۷) یہود و نصاریٰ کے علماء جن کے پاس بچھلی آسمانی کتابوں کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کی ہر شناختی کا علم تھا، آثار و قرآن سے یہ لوگ اس وقت سمجھ گئے تھے کہ اس آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اسی کی طرف اس جملہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

(سیدنا و مولانا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

عدنان کا نسب آگے بڑھ کر حضرت اسملیل بن حضرت ابراہیم علیہما السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ سب لوگ اچھے اخلاق اور مرتبے اور مقام والے لوگ تھے۔ (۸)

والدین کریمین:-

حضرت آمنہ خاندان قریش کی ایک معزز اور اخلاق و شرافت کی مجسمہ خاتون تھیں، ان کا سلسلہ نسب اوپر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ”فہر“ میں مل جاتا ہے، فہر ہی کا لقب ”قریش“ تھا، اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کہلاتے ہیں، حضرت آمنہ بھی قریشی تھیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کے سب سے چھوٹے اور چھیتے بیٹے تھے، اخلاق و شرافت کا پیکر اور شرک و بُت پرستی سے متفرغ تھے، عبدالمطلب نے نذر مانی تھی کہ اگر انہیں دس بیٹے ہوں گے اور وہ ان کے کام کا ج میں ہاتھ بٹانے لگیں گے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں گے، حضرت عبد اللہ کی پیدائش سے ان کی یہ خواہش پوری ہوئی، جب انہوں نے نذر پوری کرنے کا ارادہ کیا تو سب بیٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا، تینوں مرتبہ قرعہ میں قربان کرنے کے لئے عبد اللہ ہی کا نام نکلا، عبدالمطلب تو تیار ہو گئے مگر بہنوں اور قوم کے لوگوں نے مراجحت کی اور یہ طے پایا کہ

(۸) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا سب شرفاء قوم اور جاہ و مرتبے والے لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد اللہ ماجد میں بہت ہی شریف اور نیک سیرت نوجوان مانے جاتے تھے، آپ کے دادا عبدالمطلب تو اہل مکہ کے سردار ہی تھے، اسی طرح اور اپر کے اجداد کا حال ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی شرافت و وجہت کی تعریف فرمائی اسے اللہ تعالیٰ کا کرم قرار دیا ہے کہ اچھے سے اچھے خاندانوں میں آپ کا جو ہر ہنفل ہوتا ہوا آیا ہے اور آپ کے آباء و اجداد مداروں میں سب ہر قسم کی بدکاری و بد اخلاقی سے محفوظ تھے۔ (شرطاطیب م: ۱۹)

عبداللہ اور ایک جان کا مقررہ فدیہ یعنی دس اونٹ کے درمیان قرعداً لا جائے، ایسا کیا گیا تو بھی عبد اللہ ہی کا نام نکلا، عبدالمطلب دس دس اونٹ اضافہ کر کے قرعداً لاتے رہے، یہاں تک کہ جب سواونٹ اور عبد اللہ میں قرعداً لا گیا تو اونٹوں کا نام نکلا، سب لوگ خوشی سے سرشار ہوئے اور عبدالمطلب نے بیٹے کے فدیہ میں سواونٹ قربان کر کے اپنی نذر پوری کر لی۔ عبدالمطلب نے ان کا نکاح خاندان قریش کی ایک معزز خاتون آمنہ بنت وہب سے کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ عبدالمطلب نے بیٹے کو تجارت کی غرض سے سفر میں بھیجا، واپسی میں وہ مدینہ پہنچ کر بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئے۔

اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر پا کیزہ پٹتوں سے پا کیزہ پٹتوں میں منتقل ہوتا ہوا بالآخر حضرت عبد اللہ کے ذریعہ حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں قرار پایا، پھر دنیا کے شرق و غرب میں جگ گایا۔ اللہم صلّ و سلم علیہ وعلى آلہ رضاعت اور بچپن:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہؓ نے پھر ابوہب کی باندی ٹوییہ^(۹) نے دودھ پلایا، اس کے بعد عرب کے رواج^(۱۰) اور طریقہ کے مطابق حضرت حلیمه^(۱۱) نے اپنے گود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے مزین کیا، دو سال تک دودھ پلا کر مکہ مکرمہ واپس لائیں مگر مکہ میں آب و ہوا کی خرابی کا بہانہ بنایا کہ پھر لے گئیں، چار سال کی عمر شریف تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب دایہ حضرت حلیمهؓ کی پرورش

(۹) ٹوییہ دودھ پلانے کی وجہ سے آپ کی رضائی ماں ہو گئی تھیں، آپ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، مدینہ منورہ سے بھی ان کے لئے ہدایا روانہ فرمایا کرتے تھے، فتح مکہ کے بعد ان کو اور ان کے بیٹے مسروح کو آپ نے تلاش کر دیا تو معلوم ہوا کہ دونوں انتقال کر گئے ہیں، یہ تحقیق نہ ہو سکی کہ وہ مسلمان ہوئے یا نہیں؟ بعض علماء نے ان کو صحابیات میں شمار فرمایا ہے۔ (فتح الباری: ۱۱۸/۹)

(۱۰) رواج یہ تھا کہ دیہات کی عورتیں شہر سے مالدار لوگوں کے بچوں کو لیجا کر اپنے بچوں کی ساتھ دودھ پلاتی تھیں

پرورش میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکتوں (۱۲)، اور عجیب و غریب سعادتوں کی وجہ سے حلیمه چاہتی تو یہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اپنے ہی پاس رکھیں، مگر ”شق صدر“ کے جیرت انگیز واقعہ سے گھبرا کر مناسب سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالہ کر دیں، چنانچہ ایسا ہی کیا۔

شق صدر کا واقعہ:- (۱۳)

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمه ہی کے گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھلینے اور بکریاں چرانے میں مشغول تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس دو فرشتے آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوت لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا اور قلب مبارک کو باہر نکال کر اس میں سے ایک سیاہ ماڈہ خارج کر دیا، پھر زمزم کے پانی سے ہو کر اپنی جگہ رکھ دیا اور سینہ مبارک کو سیاہ، اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی گھبرائے اور دوڑتے ہوئے گھر پہنچ کر والدین کو اطلاع کی، وہ لوگ دوڑ کر پہنچے مگر ان کے پہنچنے تک سب کچھ ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کو کھڑے کچھ اداس سے نظر آرہے تھے، اس واقعہ سے حیران ہو کر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حوالہ کر دیا جائے، مبادا کوئی اور حادثہ نہ پیش آجائے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر پڑ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکرمہ لے جا کر حضرت آمنہ کے حوالہ کر دیا ان کے وجہ دریافت کرنے پر پورا قصہ سنادیا، مگر حضرت آمنہ مطمئن رہیں اور اس طرح کے دوسرے واقعات سن کر انہیں بھی اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں اس پرچہ پر جن آسیب وغیرہ کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔

جس کا معاوضہ ان کے سرپرستوں سے حاصل کر لیا کرتی تھیں، اس طرح ایک طرف بچوں کو دیہات کی صاف ستری آب و ہوائل جاتی تھی، زبان صحیح ہو جاتی تھی تو دوسرا طرف ان دودھ پلانے والیوں کی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ (۱۴) مکہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے قریب ہی کے علاقے میں ایک قبیلہ ”ہوازن“ کے نام سے آباد تھا اس قبیلے کی ایک شاخ ”بنو سعد“ کہلاتی تھی اسی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کا نام ”حلیمة“ تھا آپ کو دودھ پلانے کے لئے اپنے وطن لے گئی تھیں۔ (ابن حشام ۱/۱۰۰) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حلیمة ان کے شوہر اور بچے سب

حضرت آمنہ کا وصال:-

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھ سال کی ہوئی تو حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نخیال مدنیتہ گئیں جو اس وقت "یثرب" کہلاتا تھا، کچھ دن اپنے میکے میں قیام کر کے جب واپس ہو رہی تھیں تو مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام "ابواء" پہنچنے کے بعد بیمار ہو گئیں اور سفر کے دوران یہیں انتقال فرم گئیں۔ والد محترم کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا مگر تقدیر کا لکھا ہوا بہر حال پورا ہونا تھا، کمسنی کی اس عمر میں آپ کو والدہ محترمہ کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوڑنی پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندی حضرت ام ایکن^(۱۲) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکر مہ پہنچیں اور دادا عبدالمطلب کے حوالہ کر دیا۔

دادا بھی چل بسے:-

پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ برس کے ہوئے تو خدا کا کرنا کہ دادا محترم کا سایہ رحمت بھی سر سے آٹھ گیا۔ جس وقت عبدالمطلب کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا عبد اللہ کا یہ آٹھ سالہ یتیم ویسر بچہ جب اپنے دادا کے جنازہ کے پیچھے پیچھے آنسو بہاتے ہوئے چل رہا تھا، اُس وقت دنیا یہ تو دیکھ رہی تھی کہ اس کا ب دنیا میں ایک غریب اور عیالدار بچا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں رہ گیا ہے، مگر یہ کسی کوئی معلوم تھا کہ ظاہری سہاروں سے پے در پے محروم کئے جانے والا یہ بچہ ہی بیمار انسانیت کا مسیحا اور قیامت تک کے کمزوروں اور یتیموں کا سہارا ہونے والا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رب کی طرف سے عزم و حوصلہ اور خود اعتمادی و خدا پرستی کی تربیت کے نیبی نظام کا ایک حصہ ہے۔

مسلمان ہو گئے تھے۔ (سیرت حلبیہ اردو: ۸۱)

(۱۲) مثلاً جس گدھی پر سوار ہو کر حضرت حلبیہ کہہ آئی تھیں وہ بہت ہی مریل تھی، آپ کو سوار کرانے کے بعد وہ صحمند اور مضبوط ہو گئی، اسی طرح جو اونتھی ان کے ساتھ تھی جو خشک سالی کی وجہ سے بالکل سوکھ گئی تھی آپ کی برکت سے اسی دن سے وافر مقدار میں دودھ دینا شروع کر دی، اسی طرح یہ کہ جب یہ لوگ گاؤں یہو پیچے تو سارا گاؤں خشک ہونے اور کہیں چارہ نہ ہونے کے باوجود حلبیہ کی بکر یوں کوچارہ مل جاتا تھا اور وہ دودھ سے بھری واپس آتی تھیں وغیرہ (ابن حشام: ۱۱۱)

چچا کی کفالت میں:-

عبدالمطلب نے مرتبے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی پسند سے اپنے بیٹے ابوطالب کے حوالہ کر کے انہیں خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس بچے کا۔ جس کے ماں باپ دونوں انتقال کر گئے ہیں۔ خاص خیال رکھیں، اسی لئے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا خواجہ ابوطالب کے ساتھ زندگی گزارنے لے چکے تھے، چچا ابوطالب کے گھر منتقل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی غربت و جز معاشری اور اس کے ساتھ ان کے بڑھاپے اور کمزوری کو دیکھا تو بہت متفکر ہوئے، اپنا غم بھول کر چچا کی مدد کرنے کی سوچ میں لگ گئے، بالآخر اس نختی سی عمر میں جوانوں کے حوصلوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے مکہ کے ایک قبیلے والوں سے چند قیراط پر ان کی بکریاں چڑانے کا معاملہ طے کر لیا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کی بکریاں چڑاتے اور شام کو اس کی مزدوری اپنے بوڑھے اور کمزور چچا کے حوالہ کرتے، تاریخ بتلاتی ہے کہ ابوطالب اگرچہ باپ کے انتقال کے بعد مکہ کے سردار ہونے لئے گئے تھے مگر سردار مکہ کے بچے اس وقت تک اپنی بھوک مٹا نہیں پاتے تھے جب تک کہ ان کا بیتیم و کم سن بھتیجہ اپنی مزدوری لا کر ان کو نہ دیتا تھا۔ (۱۵)

غیری تعلیم و تربیت:-

شاید حق تعالیٰ شانہ کو یہی منظور تھا کہ وہ موحد و متکل ذات جو توحید و تسلیم کا پیغام لے کر تمام انسانوں اور جنات کی جانب مبعوث ہونے والی ہے وہ اپنی پروش کیلئے کسی ٹوٹنے والے سہارے اور خشم ہو جانے والے آسرے کی محتاج نہ ہو بر اور است خدا کی نگرانی میں اسی

(۱۳) شق صدر یعنی سیدہ مبارک چاک کر کے آپ کے قلب مبارک کو کانے، صاف کرنے، اور وہ ہونے کا واقعہ مختلف روایات کو سامنے رکھ کر گل چار مرتبہ پیش آیا، پہلی مرتبہ بچینے میں، دوسرا مرتبہ دس سال کی عمر میں، تیسرا مرتبہ لعشت سے قبل، اور چوتھی مرتبہ معراج سے قبل۔ (سرہ المصطفیٰ/ ۲۸۷۴)

(۱۴) اُم ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبد اللہ کی باندی تھیں، آپ کو راشت میں ملی تھیں آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیا تھا، ام ایمن ہی اسامہ رض زید کی والدہ تھیں۔ (ثریاتیب ص: ۲۷)

کی غیبی قوت و قدرت سے پوری خودداری و بے نیازی کے ساتھ پروش کے مراحل طئے کرے۔ چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تربیت میرے رب نے فرمائی ہے اور مجھے تعلیم بھی میرے رب نے ہی دی ہے اور اس نے مجھے بہت اچھی تربیت اور بہت ہی اعلیٰ تعلیم دی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی نہ کبھی شرک کیا اور نہ کسی مشرکانہ عمل یا محفل میں شرکت فرمائی، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خاص دوستوں کو منع بھی فرمایا کرتے تھے، بتوں کے نذر انوں میں سے کچھ دیا جاتا تو اس کے کھانے سے انکار فرمادیا کرتے تھے، مشرکانہ افعال کی طرف غیر شریفانہ اعمال سے بھی بختی سے بچا کرتے تھے۔ مثلاً تغیر کعبہ کے وقت حضرت عباسؓ نے پھر اٹھانے کے لئے چادر کھول کر موئذھوں پر رکھ لیئے کا مشورہ دیا جو اس علاقہ کا عام رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ارادہ کیا غشی طاری ہو گئی اور ایسا نہ کر سکے، اسی طرح مشرکین کعبہ کا برہمنہ طواف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی یہ عمل کیا اور نہ کبھی ان کے اس عمل کو پسند کیا۔ اسی طرح شادی کی مخالفوں میں گانے باجے کا کے میں عام رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شرکت کر کے دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، مگر جب یہ پروگرام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نیند لگ گئی کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا، بیدار ہوئے تو محفل ختم اور صبح ہو چکی تھی۔ یہ سب حق تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی غیبی تربیت کی برکت تھی۔

پہلا سفر اور حیرا کی ملاقات:-

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تیرہ برس کے ہوئے تو ابو طالب تجارت کے سلسلہ میں شام یعنی سیریا کے سفر کی تیاری فرمار ہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ اس

(۱۵) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بکریاں چانا بھی قدرتی تربیت کا ایک تکونی حصہ تھا، یہ کام اللہ پاک نے دیگرانیاء سے بھی لیا ہے، علماء نے اس کی بڑی مصلحتیں بیان کی ہیں، مثلاً اس سے کمزوروں پر شفقت، قوم کو جوڑنے کی صلاحیت، نادانوں کی ناقدری پر تحمل، راہ خدا کی مشکلات پر صبر وغیرہ بے شمار صرف پیدا ہوتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ اذنوں اور گھوڑوں کی صحبت سے قلب میں بختی اور بکریوں کی خدمت سے رفت و فزی پیدا ہوتی ہے۔

سفر میں شریک ہو گئے، راستہ میں ایک مقام ”بصری“ تھا، وہاں عیسائی مذہب کے ایک بڑے عالم ”بُحیرا“ نامی رہا کرتے تھے، جب آپ قافلہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو بُحیرا راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پچھا ایسی خوبیاں اور خاص باتیں دیکھیں، جن سے منتاثر ہو کر سارے قافلہ والوں کی اپنے گرجا میں دعوت کی، دعوت کے بعد ابو طالب سے کہا کہ ”اس بچپن کی حفاظت کرنا اس کی بڑی شان ہونے والی ہے“ ابو طالب نے ان کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں مناسب یہی سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں آگئے نہ لے جایا جائے، اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ ہی سے کسی کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس کر دیا۔

واقعی تفصیل:-

ہوا یہ کہ جب ابو طالب کا قافلہ جاز سے گزر کر ملک شام میں داخل ہوا تو قافلے والوں نے معمول کے مطابق ایک مقام پر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، اس جگہ کے والے اپنے اونٹوں کے چارہ پانی اور اپنی ضروریات کے لئے ہمیشہ ہی ٹھیرا کرتے تھے، اس جگہ سے قریب ایک عیسائی عالم کی عبادت گاہ تھی، وہ کبھی کسی آنے جانے والے کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس دن اس نے دیکھا کہ قافلہ کے اتنے کے بعد درخت کی ٹھینیاں نیچے کی جانب جھک گئی ہیں، اور ابرا کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کے درمیان ہو کر دھوپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے، یہودی اور عیسائی علماء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے ظاہر ہونے کی تمام علامات سے اس طرح واقف تھے جیسا کہ کوئی باپ اپنے بچ سے واقف ہوتا ہے۔ ان کیفیات کو دیکھ کر اس کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہہ کر جلدی سے کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کروایا، اور قافلے والوں کو دعوت دی، ان لوگوں کو بہت تعجب ہوا کیونکہ کبھی ایسا نہ ہوا تھا، بہر حال! ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور جب راہب کے گھر جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ساتھ یاجنا مناسب نہ سمجھ کر وہیں سامان کے پاس چھوڑ دیا،

جب سب لوگ اکھتا ہو گئے تو راہب نے ان پر ایک کڑی نظر ڈالی اس کو ان لوگوں میں وہ انوار و برکات اور خاص علامات نظر نہ آئیں جو اس جگہ دکھائی دی تھیں، اس لئے معلوم کیا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ ان لوگوں نے کہا: ہمارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا اسے وہیں چھوڑ دیا ہے باقی سب موجود ہیں، راہب نے کہا نہیں! سب لوگ شریک ہوں بچہ بھی نہ چھوٹے!

چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا یا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو اس عیسائی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دیکھا قریب سے دیکھا، آنکھوں میں غور کیا، پیٹھ پر ”مہربوت“ کو دیکھا جب کھانے سے فراغت ہو گئی تو اس نے مزید اطمینان کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں تم سے کچھ پوچھوں گا، تم کولات و منات کی قسم ہے مجھے صحیح صحیح جواب دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے لات و منات کی قسم دے کر کچھ نہ پوچھو مجھے ان سے چڑھے ہے! اس نے کہا اچھا اللہ کے واسطے سے مجھے جواب دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے واسطے ضرور بتاؤں گا، جو چاہو پوچھو! اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سونے اور جانے وغیرہ سے متعلق کئی سوالات کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے جوابات دیدیئے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جن کی ہر نبی نے خبر دی ہے اور اہل علم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے؟ راہب نے کہا: غلط ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس کے باپ کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جانا چاہئے۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا بھتیجے ہے، اور اس کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو گیا ہے، اس پر اس نے بتایا کہ انہیں گھر واپس کر دیجئے، آگے مت لیجائے اس لئے کہ یہودی اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔

قابل فخر نوجوانی:-

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ پندرہ سال کے ہوئے تو آہستہ آہستہ عام لوگوں کے ساتھ اختلاط، لین دین، معاملت و معاشرت ہونے لگی تھی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور

عادات و اخلاق کی خاص شان کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور تعجب کرتے رہتے تھے، سچائی، معاملات کی صفائی، دیانت داری، نرم مزاجی، غریبوں کا خیال، تیبیوں پر شفقت، پڑوسنیوں کا لحاظ، چھوٹے بڑوں کی رعایت، بیمار پُرسی اور انسانی ہمدردی جیسی صفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز کمال سے مکہ کے لوگ اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے آپ کے نام "محمد" سے پکارنے کے الصادق اور الامین یعنی سچے اور اچھے کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔

سماجی خدمات کا جذبہ:-

جوانی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے اصرار پر مکے والوں کی ایک جنگ میں حصہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی وجہ سے اس میں حصہ تو لیا لیکن لڑائی کسی سے نہیں کی، اس لڑائی کو حربُ الفجار کہتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد مکہ والوں نے روز روکے جھگڑوں سے نجات پانے کیلئے آپس میں ایک امن معاهدہ کرناٹے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاهدہ میں بڑے شوق و ذوق سے شرکت فرمائی، اس میں شرکت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت تھی، اس کو "حلف الفصول" کہتے ہیں۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاهدے کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسے معاهدہ کی دعوت دے تو میں بخوشی قبول کرلوں گا۔ آپ کے اس ارشاد سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا بھی اصل مقصد اللہ کی اس زمین پر امن کا قیام اور اللہ کے کلمہ کی سر بلندی ہے نہ کہ زور زبردستی اور ظلم و زیادتی، جیسا کہ آج کل دشمنان اسلام نے مشہور کر رکھا ہے۔

کاروبار کا آغاز:-

ستره برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب سے اجازت لے کر اپنی تجارت کا آغاز فرمایا، عبد اللہ بن ابی الحمساء اور قیس بن سائب وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریکوں تجارت تھے، اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن وغیرہ کا سفر بھی فرمایا، لوگ جوانی کی

اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ مہارت اور تجربہ، ذہانت و ہوشیاری، معاملات کی صفائی، سنجیدگی و جناشی، خوش خلقی و خندہ پیشانی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے اور داد دینے پر مجبور ہوتے تھے۔

سبق آموز حکایت:-

اس زمانہ تجارت کا ایک واقعہ عبد اللہ بن ابی الحسناء بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سامان یار قم ہو نچانا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ میں بیہیں آ کر آپ سے ملوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ میں انتظار کرتا ہوں، مگر جب گھر گیا تو کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، یہ بات ذہن سے نکل گئی، تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں سٹ پٹایا اور جلدی سے اس جگہ ہو نچا تو یہ دیکھ کر حیران اور پیشان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق اسی جگہ ٹھیکرے انتظار فرمائے ہیں، میں نے مذہر کی تو انہوں نے قبول فرمائی، بس اس قدر فرمایا ”تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں“

کامیاب تجارت:-

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ذاتی و کاروباری خوبیوں کا علم قریش کی ایک نہایت دولمند، شریف مزاج اور نیک نفس، خاتون خدیجہ کو — جنھیں لوگ ان کی پاکبازی کے وجہ سے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے — ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ مضاربت^(۱۶) پر تجارت کا ارادہ فرمائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلہ میں نفع کا زیادہ حصہ پیش کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور حضرت خدیجہؓ کے غلام میسرہ^(۱۷) کو ساتھ لے کر کاروبار کیلئے ملک شام شریف لے گئے،

(۱۶) مضاربت: تجارت کا ایک طریقہ ہے کہ مال کسی کا ہوا و محنت کسی کی، جو بھی افع آئے اس کو دونوں فریق طئے شدہ معاہدے کے مطابق تقسیم کر لیں۔ اسلام میں یہ ضروری ہے کہ یہ تقسیم فی صد کی بنیاد پر ہو تو تعمیر قم کی بنیاد پر نہ ہو۔ (اتر بیانات للبر جانی ص: ۲۲۵)

راستہ میں میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کو دیکھ کر حیران و ششدروہ گئے، اس سفر میں بڑی برکتیں رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی تجارت میں دو گناہ نفع ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کامیاب ترین تجارت سے واپس ہو رہے تھے تو اس شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر فرشتے دھوپ سے حفاظت کیلئے اپنے پروں سے سایہ کئے ہوئے تھے، یہ کشمکش حضرت خدیجہؓ اور ان کی سہلیوں نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، پھر ان کے غلام میسرہ نے دوران سفر پیش آئے حیرت انگیز واقعات اور حالات اس قدر سنائے کہ حضرت خدیجہؓ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔

نسطورا کی شہادت:-

سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے شہر بصری ہوئے تو کچھ آرام لینے کیلئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ”نسطورا“ نامی ایک راہب رہتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ عیسیٰ ابن مریمؐ کے بعد سے اب تک اس درخت کے نیچے آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں اترا، کیونکہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ٹھیکرتا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب سے اور بہت غور سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر کہنے لگا ”یہ وہی نبی ہے، یہی آخری نبی ہے“

حضرت خدیجہؓ کا پیغام نکاح:- (۱۸)

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں و مکالات کی تفصیل حضرت خدیجہؓ کے چھا

(۱۷) میسرہ حضرت خدیجہ کے باعتماً غلام تھے انہیں وہ اپنا مال یجائے والوں کے ساتھ اپنے اطمینان کیلئے بھیجا کرتی تھیں، غالباً وہ دعوائے نبوت سے قبل ہی وفات پا گئے، مؤرخین فرماتے ہیں کہ صحابہؐ میں ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

(۱۸) حضرت خدیجہؓ بنت خویلد خاندان کے انتبار سے قریب تھیں، مکہ کے خواتین میں سب سے زیادہ شریف اور سمجھدار تھیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی خوب عطا فرمائی تھی اور عشق و خرد میں بھی پختہ تھیں، قریش کے تاجریوں سے اپنے مال کی مصاہرات پر تجارت کروایا کرتی تھیں، انکی نیک سیرتی، پاکداری، اور خوشحالی کی وجہ سے ہر کوئی ان سے نکاح کا متنبھی تھا۔ (سیرہ ابن حشام: ۱/ ۲۶۲)

ورقة بن نوبل۔ جو عیسائی مذہب کے بڑے عالم اور بزرگ شخصیت تھے۔ کے علم میں آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیشین گوئی کی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ جس سے حضرت خدیجہؓ کے ذہن و دماغ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سکنا اور زیادہ جم گیا تھا، انہوں نے چاہا کہ کسی طرح اس عظیم الشان شخصیت اور با اخلاق و شریف ہستی کو اپنے گھر منتقل کر لیا جائے، اور انھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے، ہر طرح خدمت کرنے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔

نکاح مبارک:-

حضرت خدیجہؓ دو شوہروں سے یوہ ہو چکی تھیں،^(۱۹) اس کے بعد بھی قریش کے بڑے رؤساؤ شرقاً نے انھیں نکاح کا پیغام دیا تھا، لیکن ان کا دل اب تیرے نکاح کیلئے آمادہ نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصافِ جیلیہ، اخلاق حمیدہ اور غیری نصرتوں سے متاثر و معتقد ہو کر خود نکاح کیلئے بے چین ہونے لگیں، انہوں نے اس دلی آرزو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں کسی پیغام رسال کے ذریعہ پیش کر دیا، آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کے بعد اس رشتہ کو منظور فرمایا، خوش قسمت خدیجہؓ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ یا ابوطالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا اور پانچ سو در ھم یا بیس اونٹ مهر مقرر ہوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور حضرت خدیجہؓ کا تیرا نکاح تھا، پھر جب تک حضرت خدیجہؓ حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی۔ سوائے حضرت ابراہیم کے۔ سب حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہوئیں۔^(۲۰)

شادی کے بعد:-

شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی کے تقاضوں اور خانگی ضرورتوں کو پورا

(۱۹) ۱۔ ابوہالہ ابن زر رارہ تھیں، ۲۔ عقیق ابن عائذ مخزوی۔ پہلے شوہر سے دوڑ کے اور دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئے تھے، ان میں سے ایک لڑکا ہند بن ابی الہ اسلام قبول کر کے صحابہ کرام میں شمار ہوئے۔

کرنے کے علاوہ قومی رفاهی اور سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، بلکہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کرداری کی وجہ سے ایسے کاموں میں آپ کی شرکت کو باعثِ سعادت سمجھتے تھے، نکاح کے بعد حضرت خدیجہؓ نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشری پہلو سے بھی کسی قدر بے فکری اور لوگوں کی خدمت و مدد کرنے میں مزید سہولت ہو گئی تھی، اسی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے ان کے چھوٹے بیٹے حضرت علیؓ کو اپنی کفالت میں لے لیا، نیز ایک اور بھتیجے کو اپنے دوسرے چچا حضرت عباسؓ کی کفالت میں رکھوادیا، حضرت خدیجہؓ ایک کم عمر غلام زیدؓ ابن حارثہ کو بیٹا بنا کر رکھ لیا، غرض یہ کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر کی سہولت، خدمت گذار یوں کی رفاقت اور معاشری طمایعت نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اسکے بندوں کی جانب اور زیادہ متوجہ ہو گئے، ایک طرف مذکورہ بالا رفاهی و سماجی خدمات میں لگ گئے تو دوسری جانب تنہائیوں میں حتی المقدور رجوع الی اللہ اور ریاضت و عبادات میں مصروف ہو گئے۔^(۲۱)

خلق عظیم کے حامل:-

یہ مصروفیات کس نوعیت کی تھیں ان کا اندازہ حضرت خدیجہؓ کے ان کلمات سے بآسانی ہو سکتا ہے جو انہوں نے پہلی وجہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور فکر مندی کو دیکھ کر بطور تسلی کے عرض کیا تھا: "اللہ کی قسم! اللہ پاک آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رسمی کرتے ہیں مقروضوں اور حاجمتndoں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، قیمتوں اور بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں

(۲۰) حضرت خدیجہؓ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کے اور چاٹر کیاں پیدا ہوئیں۔ ۱۔ حضرت قاسم، طیب و طاہر بھی انہی کے نام بتلائے جاتے ہیں، انہی سے آپ کی کنیت "ابوالقاسم" ہوئی، ۲۔ حضرت عبد اللہ، ۳۔ حضرت زینب، ۴۔ حضرت رقیہ، ۵۔ حضرت ام کلثوم، ۶۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم ابجعین۔ ایک اور صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت ماریم قطبیہ سے پیدا ہوئے۔ (ابدایہ النہایہ/۷۷)

اور مہماںوں کی ضیافت و اکرام کرتے ہیں وغیرہ ” ظاہر ہے کہ یہ ایک آدھ موقع کی بات ہوتی تو حضرت خدیجہؓ ان صفات کو بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت و سیرت کے بیان نہ کرتیں، پھر یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ گھر میں رہنے والی بیوی کی یہ شہادت ہے تو باہر رہنے والے لوگ آپ کی ان صفات سے کس قدر واقف نہ تھے ہوں گے۔ (۲۲)

کعبہ کی تعمیر:-

اسی دوران اہل مکہ نے کعبۃ اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، (۲۳) کیوں کہ کعبہ مکرمہ کی تعمیر مختلف وجوہات سے نہایت ضروری ہو گئی تھی، موجودہ عمارت تعمیری اعتبار سے نامکمل بھی تھی، انہی دنوں میں کعبۃ اللہ میں چوری کا ایک واقعہ بھی پیش آگیا تھا، انہی دنوں کسی خاتون کی غفلت سے غلافِ کعبہ میں دھونی دینے کے دوران آگ لگ گئی تھی، ادھر منجانب اللہ لکڑیوں سے لدی ہوئی ایک کشتی آندھی کے اثر سے جدہ کے ساحل سے ٹکرائی تھی، قریش نے موقعہ غنیمت سمجھ کر کعبہ کی تعمیر کے لئے ان لکڑیوں کو خرید لیا، اسی کشتی میں ایک ماہر معمار بھی موجود تھا، قریش نے اسے بھی کام پر آمادہ کر لیا، بستی میں اعلان کر کے حلال و پاکیزہ رقم بھی جمع کر لی، یہ تمام اسباب تو مہیا ہو گئے مگر یہ تشویش پھر بھی باقی تھی کہ آیا یہ کام اللہ تعالیٰ کو بھی منظور ہے یا نہیں؟ کافی سوچ بچار کے بعد آپس کے مشورہ سے بالآخر انہوں نے تعمیر جدید کا ارادہ کر لیا۔

آسمانی تائید:-

کعبۃ اللہ کی تعمیر سے قبل موجودہ عمارت کو گرانا ضروری تھا، قریش کعبہ کا بہت احترام
 (۲۱) مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے کچھ اچھے کام اور چوٹے موٹے اعمال باقی تھے، مثلاً نماز، طواف، دعا، ذکر و اذکار وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حیدر اور اخلاق سے میل کھانے والے اعمال سے فطرتاً رغبت رکھتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔

(۲۲) مولانا عبد الماجد دریابادیؒ نے اپنی دہریت کے دور میں ایک کتاب ”سائیکالوجی آف لیڈر شپ“ کے عنوان پر کھصی تھی، اس میں حضرت بنی کرم مصلی اللہ علیہ وسلم کا لغوی بالشدا یک کامیاب لیڈر کی حیثیت سے پسند کیا تھا، جب

کرتے تھے اور اس کی توہین سے ڈرتے رہتے تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ کعبہ کو منہدم کرنے سے کوئی مصیبت اور بلا توہین آ جائیگی؟ اسلئے انہوں نے بہت احتیاط بر تی، سب سے پہلے تو اس کام پر تمام اصحاب رائے کا اجماع واتفاق کیا، پھر اعلان کیا کہ اس کی تعمیر میں حلال وطیب مال ہی لگایا جائے، سود کا ظلم کا جوے کا اور اسی طرح کوئی بھی مشکوک مال اس میں شامل نہ کیا جائے پھر ایک شخص کے ذریعہ تھوڑا سا حصہ منہدم کرا کے ایک رات گذرنے کا انتظار کیا، پھر کعبۃ اللہ میں موجودہ تمام خزانہ نکلا کر ایک باعتماد مدرسدار کے پاس رکھوادیئے گئے، جب یہ ساری تیاریاں ہو گئیں اور کام شروع ہونے والا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے اندر خزانوں کا جو کنوں تھا اسکیں سے ایک اٹڑہ بابا ہر آیا ہوا ہے اور وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو جسم کی رگڑ سے خوفناک آواز نکالتا اور منہکھول دیتا ہے، ولید بن مغیرہ نے کہا تو رونہیں ہم لوگ سب کام صحیح طریقہ پر کر رہے ہیں، ہمارا مقصد اچھا ہے، اللہ تعالیٰ مرد فرمائے گا۔ ان لوگوں نے مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ اس اٹڑہ سے نجات مل جائے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بڑا پرندہ بھیجا، اس نے اس اٹڑہ کو اٹھا کر اجیاد کی پہاڑی پر ڈال دیا، اس سے وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، اور کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا رخیر میں بھر پور حصہ لیا، اپنے کندھوں پر پھر ڈھو ڈھو کر معماروں تک ہو نچاتے رہے۔

حجر اسود کا قضیہ:-

تعمیر کے دوران حجر اسود کا واقعہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب کر

انہوں نے کتابِ محدث علی جو ہر کے پاس تبصرہ کیلئے بھیجی تو انہوں اس کتاب کی بعض خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد اس گستاخی پر شدید تقدیم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈر کے بجائے سچے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر یہ بھی لکھا کہ ”فریب باہر والوں کو دیا جا سکتا ہے، قصۂ اور ابن الوفی سے ان کے سامنے کام لیا جا سکتا ہے مگر یہاں حال یہ ہے کہ (دعاۓ نبوت کی تصدیق) کرنے والے اور تسلی دینے والے سب سے پہلے وہی تھے جو محمران راز تھے، (سوچنا چاہئے کہ) کم از کم یہ ہستی تو چال بازیوں سے پاک اور بالا ترقی“ (مولیٰ جوہر ڈائری... ص ۵۵)

نے کا شرف حاصل کرنے کے لئے قریش کے خاندانوں میں اختلاف ہو گیا، اور نوبت قتل و قفال تک پہنچ گئی۔ یہی صورت حال تعمیر کا شرف حاصل کرنے کے سلسلہ میں بھی پیش آگئی تھی، مگر ولید بن مغیرہ نے کعبہ شریف کی دیواروں کے حصے بنا کر مختلف قبائل کے ذمہ کر کے اس قصیے کو حل کر دیا تھا، مگر مجرماً سود تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس میں یہ ترکیب بھی نہیں چل سکتی تھی، بات جب حد سے گذر گئی تو ولید بن مغیرہ نے ایک تدبیر نکالی اور کہا کہ حرم محترم میں ”باب بنی شیبہ“ سے سب سے پہلے جو شخص داخل ہواں کو حکمِ تسلیم کر کے اس کے فیصلے کے مطابق عمل کر لیا جائے، ولید کے اس مشورہ سے سب نے اتفاق کر لیا اور انتظار کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے شخص تھے جو اس دروازہ سے حرم میں داخل ہوئے، لوگوں نے آپ کو دیکھ کر مزید اطمینان کا سانس لیا اور معاملہ آپ کے سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور اس چادر پر اپنے دست مبارک سے مجرماً سود کو اٹھا کر رکھ دیا اور حکم دیا کہ تمام قبیلوں کے نمائندے اس کے اٹھانے میں شریک ہوں، پھر جب سب نے ملکر مجرماً سود کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیا اور کعبہ پر نصب فرمادیا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد قوت، فیصلہ اور حسن تدبیر سے اہل مکہ ایک خوزیر جنگ سے نجات پا گئے۔ اللهم صل و سلم علیہ و علی آله۔

شرک و کفر سے نفرت:-

اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ہر قسم کی برا نیوں سے محفوظ رکھا تھا، مکہ کا ماحول مشرکانہ ماحول تھا مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایک دیہات میں گذر گیا، باشمور زندگی بکریاں چڑانے میں آبادی کے باہر نکل گئی، جوانی تجارت کے سلسلہ میں مختلف علاقوں میں صرف ہوئی، شادی کے بعد قومی ولی و سماجی مسائل کے علاوہ خانگی

(۲۳) کعبہ اللہ کو سب سے پہلے حضرت آدم و حوا علیہما السلام نے پھر حضرت ابراہیم و آتمیل علیہما السلام نے تعمیر کیا تھا۔ (المدایر والنهایہ ۲۷) اور بھی کئی تعمیرات کا ذکر ملتا ہے۔ تفصیل کیلئے ”ساقی کوثر“ (۱/۳۳۲) ملاحظہ فرمائیں۔

مشاغل میں لگ رہے، اور جو وقت مکرمہ میں گذرتا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے مگر نہ کبھی بتوں کی طرف توجہ کرتے نہ کبھی ان کو ہاتھ لگائے تھے، بلکہ ایک مرتبہ آپ کے غلام حضرت زیدؑ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کرتے ہوئے ایک بُٹ کو ہاتھ لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور آئندہ کیلئے منع فرمادیا۔

خلوت و عزلت کی طرف رجحان:-

پھر جیسے جیسے بعثت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر خلوت و تہائی کا تقاضہ غالب ہوتا جا رہا تھا، عجیب طرح کی بے چینی تھی جو دو نہیں ہو رہی تھی، ایک پیاس تھی جو بھنپیں پار رہی تھی، ان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے خواب دیکھتے تھے اور جو خواب میں دیکھتے بیداری میں اسی طرح پاتے تھے، یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کے ”حرا“ نامی ایک غار میں گذارا (۲۴) وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت (۲۵) میں منہمک رہتے تھے، کئی کئی روز کا تو شہ ساتھ لے جاتے، ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے پھر چلے جاتے، کبھی حضرت خدیجہؓ کا کھانا پہنچا آتی تھیں، تین سال تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔

پہلی وحی کا نزول:-

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے چالیس سال مکمل ہو چکے تو ایک دن اسی غار میں ایک فرشتہ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ریشم کا کپڑا تھا، یہ جریل امین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کپڑے پر کبھی عبارت دکھلا کر فرماتے ہے تھے کہ ”اس کو پڑھئے“، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (۲۶) اس غار میں سے کعبۃ اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا اور آپ کے جدا مجد حضرت ابراہیمؑ بھی اسی میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح عبد المطلبؑ بھی اسی میں عبادت کیا کرتے تھے۔

(۲۷) غارِ حرام میں آپ کس قسم کی عبادت کرتے تھے روایات میں اس کا ذکر نہیں ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ ذکر الہی اور سراقب فرماتے تھے، بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس زمانہ مکاشفات صالح اور روایات صادقة کا سلسلہ تو چل ہی رہا تھا اس میں جو باقی آپ پر مکشف ہوتیں کہ یہ انبیاء و سالقین کا طریقہ ہے تو آپ اسی کے مطابق عمل فرمائیتے ہوں گے۔ (دعاہار: ۱۶۳)

فرمایا میں دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا کیسے پڑھوں؟^(۲۱) انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبوچا پھر فرمایا پڑھو، اسی طرح تین بار ہوا، تیسرا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ تب جبریل امین نے سورہ اقرآن کی ابتدائی آیتیں۔—**إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقٍ إِقْرَأْ وَرَبِّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ**^(۲۲)۔— پڑھ کر سنائیں، یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو گئے جب جبریل خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ دیئے، جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نماز کی عملی مشتمل کرائی،^(۲۳) اس کے بعد اطلاع دی کہ ”آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں“ یہ رمضان المبارک کی سترھوں میں تاریخ دو شنبہ کا دن اور صبح کا سہانا وقت تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق چالیس سال تھی۔

احساس ذمہ داری:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زبردست ذمہ داری اور اس کی اہمیت کو محسوس فرمایا کر سہے اور گھرائے ہوئے حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھے اڑھادو، مجھے اڑھادو، حضرت خدیجہؓ نے اس بے چینی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ کہہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، حضرت خدیجہؓ نے خوب تسلی دی اور عرض کیا کہ: ”آپ کو بشارت ہو، آپ ہرگز مت ڈریے، خدا کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوانہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، حق بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری فرماتے ہیں، بے کسوں اور بیواؤں کی مد فرماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہ کرے گا“^(۲۴)

(۲۱) ما ان بقاریؓ کی علائے کی مختلف توجیہات کی ہیں، میں نے ان میں سے صرف ایک توجیہ اختیار کی ہے۔

(۲۲) ترجمہ: پڑھو اپنے پروڈگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خون کی ایک پھیلی سے، پڑھو تمہارا پروڈگار بہت ہمہ بان ہے، جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

(۲۳) یہ درکعت نماز تھی جو صبح و شام پڑھی جاتی تھی، پھر جب آپ کو مراجح ہوئی تو پنجوقتہ نمازیں اس میں فرض ہوتیں۔

ورقه بن نوبل کی تصدیق :-

حضرت خدیجہؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تو دی مگر اس صورتحال کی طرف سے فکر مند بھی ہو گئیں، ان کے پچازاد بھائی "ورقه بن نوبل" (۲۹) شرک چھوڑ کر اس وقت کے سچے مذہب "عیسائیت" کو اختیار کئے ہوئے اور اس مذہب کا علم حاصل کئے ہوئے تھے، بہت بوڑھے تھے، حضرت خدیجہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی پوری تفصیل سنی اور اس کے بعد فرمایا "یہ جو صاحب آئے تھے وہ اللہ کا فرشتہ ہے، جوانبیاء کرام کے پاس ہی آتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت مبارک ہو، جس وقت قوم آپ کو وطن سے بے وطن کرے گی کاش کہ اس وقت تک میں نصرت کے قابل رہتا تو ضرور نصرت کرتا۔" یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا: کیا میری قوم مجھے بے وطن کریں گی؟ انہوں نے کہا: "ہاں! کوئی بھی شخص جب وہ پیغام لے کر آتا ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو قوم اس کی مخالفت شروع کر دیتی ہے"

سب ہی جانتے تھے مگر:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق خبر تو اللہ کے حکم سے تمام انبیاء حضرت آدمؑ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سمجھی دیتے آرہے تھے، اور جیسے جیسے زمانہ بعثت قریب آتا جا رہا تھا اس زمانہ کے اہل علم و خبر کی گفتگو میں کسی نہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نکل ہی جاتا تھا، بالخصوص یہود و نصاریٰ تو بہت تفصیل سے آپ کی ولادت، شکل و شابہست، نبوت، هجرت اور سیرت وغیرہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے

(۲۹) اس جگہ کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ جب حضرت خدیجہؓ کو اس قدر اٹھینا تھا تو آپ کو کیوں نہ ہوا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے سامنے آپ کے مقام کی بلندی اور سیرت کی صداقت تھی جو اٹھینا کا سبب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر حق تعالیٰ کی عظمت اور کاریزوت کی نزاکت تھی جو یقیناً فکر و تشویش کی وجہ تھی۔

(۳۰) ورقہ بن نوبل" پہلے مشرکین ہی میں سے تھے، مگر شرک و بت پرستی سے پیزار تھے، اسی لئے اپنا آبائی دین چھوڑ کر عیسائیت اختیار کی تھی، جو اس زمانہ میں آخری آسمانی مذہب تھا، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

رہتے تھے، اخیر میں تو یہ لوگ بڑی شدت و بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا انتظار بھی کرنے لگے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور وہ بھی ان ساری علامات و آیات کے ساتھ جنہیں وہ جانتے تھے اور بیان کرتے تھے تو ان میں سے اکثر لوگ آپ پر ایمان لانے میں عار محسوس کرنے لگے، اور بعض وحدت کے شکار ہو گئے۔ (۳۱) اسی طرح مکہ کے مشرکین میں کچھ لوگ جو کہاں تھے وہ بھی جنات کے ذریعہ معلوم کر دہ آسمانی آثار و قرائیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے تھے۔ (۳۲)

مثلاً مذینہ کے ایک قبیلہ بن عبد الاشحل میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلا اور ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کے سامنے قیامت،بعثت بعد الموت،حساب و کتاب، میزان عدل، اور جنت و دوزخ وغیرہ کا تفصیل سے ذکر کیا، سامعین مشرکین تھے، انہیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا، ان لوگوں نے پوچھا: کیا تم صحیح ہو کہ یہ سب ہونے والا ہے، کیا لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس نے کہا: پیشک جانتا ہوں۔ پھر ان لوگوں نے پوچھا: اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا: وہ ہستی جو اس علاقے میں ظاہر ہونے والی ہے، ان لوگوں نے پوچھا: وہ کب ظاہر ہوں گے؟ تو اس نے مجلس میں موجود ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا: اگر یہ بچہ اپنی عمر پوری کر لے تو یہاں کوپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ وہ بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت یہ یہودی عالم زندہ تھا، ہم لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے مگر وہ ایمان نہ لایا، ہم نے اسے یاد بانی بھی کرائی کہ تم ہی نے تو ان کے بارے میں پیشیں گوئی کی تھی تو اس نے اس کا اعتراف کیا مگر بات کو تالدیا۔

انہیں جنت کے اندر سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا۔ (ابن القاسمی ۲/۶۹)

(۳۱) اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے: **كَأَنُوا مِنْ قَبْلٍ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا أَعْرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ** یعنی یہ لوگ شروع میں کافروں (یعنی بت پرستوں) کے خلاف (اس کتاب کے حوالے سے) اللہ سے فتح کی دعا کیں ماہگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آگئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پہنکا رہے اللہ کی ایسے کافروں پر! (ابقرہ: ۸۹)

اسی طرح مدینہ منورہ کے ایک قبیلہ بنو قریظہ میں ایک یہودی عالم ملک شام کے علاقہ سے آکر رہنے لگے تھے، بہت ہی نیک اور صالح تھے، لوگ ان سے اپنے لئے دعائیں کرواتے تھے، اور وہ مقبول ہوتی تھیں، متعدد مرتبہ ان کی دعا سے مدینہ میں بارشیں ہوئیں، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے یہودیوں سے کہا: آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں سرسبز و شاداب ملک کو چھوڑ کر اس بھوک و پیاس کے ملک میں کیوں آیا؟ ان لوگوں نے کہا: آپ ہی کو بہتر معلوم ہے، انہوں نے کہا: میں دراصل یہاں اس نبی کے انتظار کے لئے آیا تھا جس کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، یہ شہر ان کی بھرت کی جگہ ہے، میں چاہتا تھا کہ وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جائیں تاکہ میں ان کی اتباع کرلوں کیونکہ اب ان کا ظہور بس سر پر ہی آ گیا ہے۔ دیکھو جب وہ یہاں آ جائیں تو تم ان سے کبھی مقابلہ نہ کرنا کیونکہ تم میں ان کے مقابلہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔

چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے مقابلہ کا حکم فرمایا تو ان کے کچھ نوجوانوں نے یہودیوں کو اس اللہ والے کی وصیت یاد دلائی مگر یہود نہ مانے، البتہ یہ نوجوان مسلمان ہو گئے۔

اسی طرح مکہ میں ایک یہودی تجارت کیلئے مقیم تھا، جس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس نے قریش سے معلوم کیا کہ آج رات کیا کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو کہا کہ تھیق کر کے بتاؤ! کیونکہ آج رات اس امت کا بنی پیدا ہوا ہوگا! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اطلاع میں توجا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی مہربوت کو دیکھا، اور کہنے لگا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اور قریش سے کہا کہ یہ بچہ پورے

(۳۲) کاہن وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کا جنات سے تعلق ہوتا تھا، جنات اس زمانہ میں آسمانوں تک چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی باہمی گفتگو سے کچھ ادھوری باتیں سن کر کاہنوں کو بتلاتے تھے، کاہن اسے دیگر احوال و تجربات سے جوڑ کر لوگوں کو بتلایا کرتے تھے، کبھی صحیح لکل جاتیں کبھی غلط بھی ہو جاتیں، لیکن نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی حفاظت کیلئے جنات کے آسمانوں کی طرف جانے کے راستے پر ستاروں کا پہرہ بھٹا دیا۔ اب تو وہ ادھوری خبریں بھی نہیں لائی جاسکتی ہیں۔ (دیکھنے سنن ترمذی: ۲۲۲۷)

علاقتے پر غالب ہو کر رہے گا۔ جہاں تک عیسائی علماء کا تعلق ہے تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا: میں تم لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، لذشہ کتاب تورۃ کی تصدیق کرنے والا اور ایک خاص رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام ”احمد“ ہے۔

اسی طرح عداس، ورقہ بن نوفل، بُحیراً، نسطورا، یہ لوگ عیسائی علماء ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کر آپ کے بنی آخرالزمان ہونے کی واضح طور پر تصدیق کی۔

اسی طرح ہر قل روم کے بادشاہ نے بھی جب آپ کا دعوت نامہ اسلام اس کے پاس پہنچا تو صاف کہا کہ میں پہلے سے جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ عربوں میں سے ہوں گے، میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا، یہ سب کہا مگر مسلمان نہیں ہوا۔

اسی طرح حضرت حیمہ جب پہلی مرتبہ آپ کو لے کر مکہ آرہی تھیں تو حجہ کے کچھ عیسائی راستہ میں مل گئے تھے، جنہوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی گود میں لیا، بوسہ دیا اور بتلایا کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور یہ کہ آپ بہت بڑی شان والے آدمی ہیں۔ رہ گئے کے کے کا ہن اور بھوئی تو اگر چہ شریعت اسلامی میں ان کی خبروں کا کوئی اعتبار نہیں مگر ان لوگوں کے بھی آپ کی پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد بے شمار پیشیں گوئیاں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔

اسی طرح جنات کی طرف سے وقت فوتا پھیلائی گئیں متعدد خبروں کا بھی ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس وقت لوگ جن ذرائع معلومات پر اعتماد کرتے تھے وہ سب آپ کی نبوت اور مجزانہ شان کی توثیق میں ایک زبان وایک بیان تھے، مانا اور جانا چاہئے والے کیلئے ان میں سے ایک بھی کافی تھی مگر جنہیں نہ مانا تھا اور نہ جانا تھا ان کے

لئے آثار و علامات اور علم و عقل کے ہزاروں دفتر بھی بیکار تھے۔ توہی اگر نہ چاہے تو با تین ہزار ہیں۔

گھروالوں اور دوستوں کو اطلاع:-

نبوت ملنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تو حید و رسالت کا آغاز فرمادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مردوں میں سے صدیق اکبرؒ نے، عورتوں میں سے خدجہؓ اکبریؓ نے، بچوں میں سے علی مرتضیؓ نے، غلاموں میں سے زید ابن ثابت نے، باندیوں میں سے ام امینؓ نے پہلے پہل بیک کہا اور مسلمان ہوئے (۳۳) حضرت ابو بکرؓ نے تو مسلمان ہونے کے بعد اپنے دوستوں میں بھی تبلیغ و دعوت کا آغاز کر دیا تھا، ان کی کوششوں سے مزید چند افراد آغوش اسلام میں آگئے، ان دونوں مسلمان مصلحتاً پنے اسلام کو تخفی رکھتے اور کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی گھائیوں میں یا جہاں موقع ملتا خاموشی سے نماز ادا کر لیا کرتے تھے، اس وقت تک شریعت ابراہیمی کے مطابق صبح اور شام دو وقت کی نماز ہوا کرتی تھی۔

دارِ ارقم یا مرکزِ دعوت:-

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ اپنے تبعین سے اجتماعی ربط رکھنے اور ملاقات کرنے کا کوئی متعین مقام ہونا چاہئے اسکے لئے حضرت ارقمؓ کے حضرت حمزہؓ کے گھر کو مرکز بنایا، صحابہؓ کی کوشش سے جن لوگوں کا ذہن بن جاتا انہیں تبیہ لایا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت کر کے اسلام میں داخل فرماتے۔ اسلام کے اس سب سے پہلے مرکزِ دعوت میں مکہ کی بعض نہایت اہم شخصیتوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت حمزہؓ، حضرت عمرؓ، حضرت زبیر بن عوامؓ، حضرت ارقم ابن ارقمؓ، حضرت خبابؓ، حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ، حضرت عمارةؓ، حضرت سعد بن ابی وقارؓ وغیرہ جیسی شخصیتیں اس مرکزو اسلام سے مستفید ہوئیں، اس وقت

(۳۳) ہر جنس میں سے کسی کو اول دکھانے کی یہ توجیہ امام عظیم رحمۃ اللہ کی دیدہ و ری ہے۔
دیکھئے (ابداب الدحیۃ ۲۱/۲۳)

تک جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے وہ سب یہیں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیا کرتے تھے، حضرت ارمٰ کا یہ مکان صفا پہاڑ سے قریب میں واقع تھا۔ پھر جب حضرت عمرؓ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ جہاں چاہتے بحث ہو جاتے تھے۔

زمانہ فترت :-

پہلی وحی کے بعد کافی دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں بے چین رہا کرتے تھے، اس قدر بے چین کہ بھی بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر وہاں سے گرجانے کا خیال آ جاتا تھا، مگر جب یہ خیال آتا تو فرأجرب سیلؓ نمودار ہو کر عرض کرتے：“اے محمد! آپ اللہ کے سچے رسول ہیں” یہ سکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور جذباتِ تھمم جاتے، ان دنوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں اور پہاڑیوں سے گزرتے تو بے جان مخلوق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے السلام علیک یا رسول اللہ ہتھی تھی، انہی دنوں ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی، آپ نے سراخا کر دیکھا تو حضرت جبریلؓ آسمان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے نظر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہے گروپس ہو گئے اور فرمانے لگے ”زملونی زملونی“ مجھے چادر اڑھادو، مجھے چادر اڑھادو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر اسی انداز سے مخاطب فرمایا، حضرت جبریلؓ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات لے کر ہو چکے، (۳۳) جن میں دعوت و تبلیغ کا عام حکم مذکور ہے۔

کھلے عام تبلیغ و دعوت :-

دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ خاموش اور خفیہ طریقہ پر تین سال تک چلا، تین سال

(۳۳) یا اَيُّهَا الْمُدْتَرُ قُمْ فَانْدِرُ، وَرَبِّكَ فَكَبِرُ، وَنَبِّاْكَ فَطَهَرُ، وَالرُّجُزُ فَاهْجُرُ یعنی اے چادر اوڑھنے والے! (صلی اللہ علیہ وسلم) اٹھئے اور لوگوں کوڈرا یئے، اپنے پورو دگار کی تعریف بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے، برائی سے علاحدہ رہئے (المدڑ: ۲۷)

کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان اور گھلے عام اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیں، بطور خاص اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم بھی دیا گیا، (۳۵) اس حکم کی تقلیل کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا پر چڑھے اور قبائل قریش کو نام بنام پکارا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اپنے سچ ہونے کی پہلے خود ان لوگوں کی زبانوں سے تصدیق کروائی، جب ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں“ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں اللہ کا رسول ہوں اگر تم نے میری تصدیق نہیں کی تو میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بد نصیب پچھا ”ابو لہب“ یہ سن کر بہت بھڑکا اور آپ کے ساتھ بد تیزی اور سخت کلامی کی، اس کے جواب میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ (۳۶)

دعوتِ اسلام بر دعوتِ طعام :-

اسی سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کوشش فرمائی، حضرت علیؓ کے ذریعہ سے گوشت، دودھ وغیرہ منگلوکا کر چند رشتہ داروں کیلئے دعوتِ طعام کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے علاوہ خاندان کے چالیس افراد نے اس میں شرکت کی، کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرنا چاہا تو ابو لہب سب کو وہاں سے اٹھا کر لے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے باز رکھا۔ دوسرے دن آپ نے پھر دعوتِ دی اور دعوتِ طعام کے ساتھ دعوتِ اسلام بھی مختصر مگر جامع انداز میں پیش کر کے پوچھا کہ کون کون اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہیں؟ مگر کسی نے قبول نہیں کیا، حضرت علیؓ اس وقت کم سن تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ کھڑے

(۳۵) وَأَنْلِيْرُ عَشِيرَةَ الْأَقْفَيْنِ لِعِنْ اُور آپ قریبی رشتہ داروں کو مذاہب الہی سے ڈرائیے۔ (اشراء: ۲۷۸)

(۳۶) ابو لہب کی طرح اس کی بیوی ام جیل بھی آپ سے بہت بغض رکھتی تھی، آپ کی راہ میں آگ پچھاتی تھی، سورۃ الہلہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لئے دنیا و آخرت کی رسائی اور عذاب شدید کی وعدہ سنائی ہے۔

(ان کیفیت/ ۵۵)

ہوئے اور واضح طور پر کہا کہ میں اگرچہ سب سے چھوٹا اور کمزور ہوں مگر میں اس دین کو قبول کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔

عوام الناس پر آپ کی دعوت کا اثر:-

رشته داروں کا رد عمل تو اس طرح تکلیف دہ سامنے آیا کہ ایک بھی ماننے کو تیار نہ ہو اگر کسی کے عام لوگ جب تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے اور اسلام قبول کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کمال شرافت کا سکھ تو پہلے ہی سے لوگوں کے قلوب پر جما ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے لے کر بازاروں اور بھرے مجموعوں میں تک رشته داروں کی عداوت اور سرداروں کی مخالفت سے آزاد و بے پرواہ کریہ اعلان فرمانا شروع کر دیا کہ ”لوگو! لا اله الا الله کہو کا میاب ہو جاؤ گے“ تو ان کے قلوب آپ کی طرف مائل ہونے لگے اور رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، دیکھتے دیکھتے ایک اچھی خاصی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئی، جن میں اگرچہ اکثر کمزور اور غریب طبقے کے لوگ تھے مگر معتبر و با اثر لوگوں کی بھی ایک اچھی تعداد ہو گئی تھی۔

مالداروں پر اس کا اثر:-

جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو خفیہ طور سے اسلام کی دعوت دیتے رہے قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ چھیڑ چھاڑنیں کی اور معاملہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلے عام دعوت اسلام دینے لگے، بُت پرسنی اور کفر و شرک کے کاموں سے واضح طور پر منع فرمانے لگے تو قریش کے تمام قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و مخالفت پر آمادہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی دعوت کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر میں لگ گئے، خفیہ مشورے کرتے رہے، جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو یہ طے کیا کہ سب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کی حمایت سے محروم کر دینا چاہئے، تاکہ ہم براہ راست مخالفت کر کے

انہیں کمزور و بے اثر کر سکیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں ان لوگوں نے تین دفعہ سرداروں کے وفد کی صورت میں ابوطالب سے ملاقات کر کے اپنامدعا پیش کیا۔
ابوطالب سے سردارانِ مکہ کی پہلی ملاقات:-

چونکہ ابوطالب — آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود — آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ ہر طرح حفاظت کیا کرتے تھے، اس لئے سردارانِ قوم کا ایک نمائندہ وفد ان کے پاس ہو نچا اور ان سے کہا کہ ”آپ کا بھتیجی ہمارے ہتوں کو غلط کہتا ہے، ہمیں حق و بیوقوف کہتا ہے، نیز ہمارے آباء و اجداد کو گراہ بتلاتا ہے، ہماری آپ سے خواہش یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو اسلام کی دعوت سے روک دیں یا پھر ہمارے حوالہ کرو دیں، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے“ ابوطالب نے ان کی باتیں نہایت نرمی و سنجیدگی سے سن لیں اور انھیں سمجھا جھا کرو اپن کردیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکا اور نہ ان کے حوالہ کیا۔

دوسری ملاقات:- (۳۷)

کچھ دنوں کے بعد ان لوگوں نے پھر ابوطالب سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ”پانی اب سر سے اوچا ہو چکا ہے، ہمارے لئے آپ کے بھتیجے کی باتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، آپ کی شرافت و بزرگی کے احترام میں ہم کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا پا رہے ہیں، مگر اب ہم آپ کو یہ اطلاع دینے کیلئے آئے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا اور انہیں ہمارے مذہب کی مخالفت سے باز نہیں رکھا تو ہم ان سے مقابلہ کے لئے تیار ہو جائیں گے، ہم دنوں میں سے کوئی ایک فریق ضرور ہلاک ہو جائے گا“ اس مرتبہ قوم کی بڑھتی اور بھرپوری کی ہوئی عداوت و دشمنی کو دیکھ کر ابوطالب بھی متقدّر ہوئے اور انہوں نے آپ

(۳۷) ملاقاتوں کی یہ ترتیب مخصوص تھی تھی ہے یعنی نہیں، البتہ یہ واقعات سب ”سیرت ابن ہشام“ وغیرہ میں موجود ہیں گو اس ترتیب سے نہ ہی۔ ان کے علاوہ بھی اور واقعات ہیں، طوالت کے خوف سے ترک کر دئے گئے ہیں۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ: ”پیارے بھتیجے! تم اپنے آپ پر اور مجھ پر حرم کرو، اور بڑھاپے کی اس عمر میں اپنے چچا کے شانوں پر ناقابل برداشت بوجھ مت ڈالا۔“ چچا کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خودداری کے ساتھ فرمایا: ”چچاجان! خدا کی قسم! اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تو بھی میں اپنا کام ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ کادین غالب ہو جائے یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر ابوطالب نے کہا کہ بیٹا! تم جو چاہو کرو میں تمہیں کبھی دشمن کے حوالہ نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ حسب معمول اپنا مشن جاری رکھ رہے ہیں۔

تیسرا ملاقات:-

قریش کے سردار تیسرا دفعہ ابوطالب کے پاس ہوئے اور ایک نیافارمولہ ساتھ میں لے گئے، ابوطالب کی خدمت میں قریش کے ایک نہایت حسین و ہوشمند رئیس کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ: ”اگر آپ اپنے بڑھاپے میں ایک جوان اور سمجھدار و مددگار بھتیجے کے چھوٹ جانے کے خطرہ سے ہماری شکایت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور ہماری ہر درخواست کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ اس بچہ کو محمد کے بدالے میں لے لیں اور محمد کو ہمارے حوالہ کر دیں“، ابوطالب یہ سن کر غصہ میں آگئے اور انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ میں تمہارے بچہ کو اپنی کفالت میں لے کر کھلاوں پلاوں پرورش کروں اور اپنے بھتیجے کو ہلاک کرنے کے لئے تمہیں دیدوں! ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، جاؤ تمہیں جو کرنا ہو کرلو۔

قریش کے سردار نبی کریمؐ کی خدمت میں:-

سردار ان قریش نے جب دیکھا کہ ابوطالب پر اس سلسلہ میں ہماری کسی بات اور کسی دمکٹی کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور ان سے ہمیں کوئی مدد نہیں مل رہی ہے تو ان سے مایوس ہو گئے اور باہمی مشورہ سے یہ طے کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کر کے کوئی سمجھوتے کی کوشش کی جائے، چنانچہ یہ سب سردار حرم میں ایک جگہ مجمع ہوئے اور کسی

کے ذریعہ آپ کو اپنے پاس بلوالیا، آپ چونکہ ان لوگوں کی ہدایت کے بہت خواہش مند تھے اسلئے فوراً چلے آئے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے عرض کیا: ”ام! ہم پوری قوم کی طرف سے تمہاری طرف بیچجے گئے ہیں، تم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے آج تک کسی شخص نے ہمارے لئے ایسے سخت حالات نہیں بنائے، تم ہمارے معبودوں کو بُرا کہتے ہو، ہمارے باپ دادا کو گمراہ ٹھیراتے ہو، ہمارے بزرگوں کو بے وقوف کہتے ہو، تم نے ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، غرض کوئی ایسی برائی نہیں جو تم نہ لائے ہو، اب ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آختم اپنی اس دعوت کے ذریعہ چاہتے کیا ہو؟

پہلی تجویز اور اس کا جواب:-

تمہارے اس دعوے سے مقصود مال جمع کرنا ہے تو ہم تمہیں ڈھیر سارا مال دے دیں گے، اگر سرداری اور برتری کے خواہشمند ہو تو بتلاو، ہم تمہیں اپنا پیشو اور سردار تسلیم کر لیں گے، اگر تمہیں بادشاہت کی آرزو ہے تو ہم تم کو بادشاہ بنادیں گے، اور اگر تمہارے پاس یہ خبریں لانے والا کوئی جن ہے جو تم پر غالب آگیا ہے تو ہم تمہارے علاج اور اس سے چھٹکارے کا انتظام کر دیں گے خواہ اس پر کتنا ہی صرفہ کیوں نہ آئے، غرض! تم جو چاہتے ہو ہم وہ کر دیں گے بس شرط یہ ہے کہ تم اپنی اس دعوت کو بند کرو اور اپنے اس نئے دین کا سلسلہ ختم کرو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو توجہ اور صبر سے سن، پھر پورے اطمینان سے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا: ”مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں جن کا تم نے ذکر کیا ہے، نہ میں مال کا خواہشمند ہوں، نہ مجھے کوئی مرتبہ چاہئے، نہ مجھے حکومت کی ہوں ہے، بات صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بیھجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، مجھے حکم ہے کہ میں تمہیں فرمانبرداری کرنے کی صورت میں خوشخبری سناؤں اور نافرمانی کی صورت میں اس کے عذاب الیم سے ڈراؤں“ میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو

پیو نچا دیا ہے، اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا ہے، اب اگر تم اس کو قبول کرو گے تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کا فتح مند سودا ہو گا اور اگر اس پیغام کو ٹھکراؤ گے تو میں انتظار کرتا ہوں اللہ کے اس حکم کا جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے“

دوسری تجویز اور اس کا جواب:-

قریش کے سرداروں نے جب دیکھا کہ آپ کے اندر مال و متاع دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو انہوں نے ایک اور تجویز سامنے رکھی ”تم جانتے ہو کہ ہم لوگوں سے زیادہ دنیا میں کوئی بحال، تنگ معاش، اور پانی سے محروم کوئی قوم نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ مکہ کے ان پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے جن کی وجہ سے آبادی تنگ ہو گئی ہے تاکہ ہمارا شہر و سیع ہو جائے، اور اس میں شام و عراق کی طرح نہریں جاری ہو جائیں، اور ہمارے آباء و اجداد کو پھر سے زندہ کر دے، بالخصوص قصی ابن کلاب کو کیوں کہ وہ ہمارے بہت سچے بزرگ تھے، پھر اگر یہ لوگ زندہ ہو کر تمہاری تصدیق کریں تو ہم بھی تمہیں مان لیں گے“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احتجانہ مطالبہ کو سننے کے بعد ارشاد فرمایا: میں ان کاموں کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں، جس کام کیلئے میں بھیجا گیا ہوں اس کی دعوت تم کو دے دیا ہوں اگر تم لوگوں نے اس کو مان لیا تو دنیا و آخرت میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک انتظار کرتا ہوں گا۔

تیسرا تجویز اور اس کا جواب:-

وہ لوگ کہنے لگے: ”اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ذات کیلئے اللہ تعالیٰ سے کچھ خصوصیات مانگ لو کہ وہ تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کو کر دے جو تمہاری باتوں کی تصدیق کرتا رہے، اور ہم سے تمہاری حفاظت کرتا رہے، اور یہ کہ تمہارے پاس باغات محلات اور خزانے ہو جائیں تاکہ تم ان ضررتوں کے سلسلہ میں دوسروں کے محتاج نہ رہو، کیونکہ اب تو تم

ہماری طرح بازار جاتے ہو اور ہماری ہی طرح روزی روٹی کے اسباب اختیار کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کر سکو تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری قدر و منزلت کے اعتراف پر مجبور ہو جائیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں یہ سب نہیں کروں گا اور نہ ہی میں ان کاموں کیلئے مبعوث ہوا ہوں، میری بعثت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت کی طرف بناوں اور ماننے اور نہ ماننے کے انجام سے آگاہ کر دوں، اگر تم لوگ میری بات مان لو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر نہ مانو گے تو میں صبر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرمادے۔“

چوتھی تجویز اور اس کا جواب:-

وہ لوگ کہنے لگے: ”یہ بھی نہیں کرتے تو یہی کر دو کہ تمہارے رب سے کہہ کر ہمارے سروں پر آسمان گرا دو، جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، جب تک ایسا نہ ہوگا ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کا معاملہ ہے وہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کرے گا، نہیں تو نہیں، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، اگر مانو گے تمہارا بھلا ہو گا، نہیں تو تمہارا ہی نقصان ہے۔

جب ان لوگوں کی ان نامعقول باتوں سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنی اور ہربات کے جواب میں اپنی دعوت تو حیدور سالت ہی کو پیش کرتے اور اسکو ماننے نہ ماننے کا انجام بتلاتے رہے تو ان لوگوں نے کہا: ہم تمہاری کسی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ہمارا یقین ہے کہ تمہارے پاس فرشتہ و رشتہ کوئی نہیں آتا، یمامہ میں رہنے والا ”الرحمٰن“ نامی ایک شخص ہے جو تم کو یہ سب باتیں سکھا رہا ہے، ہم اس کو کبھی نہیں مانیں گے، اور تمہارا پیچھا بھی نہیں چھوڑیں گے تا آنکہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں یا تم ہمیں ہلاک کر دو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی طبیعت پر ان کی ضد اور ناقدری کا بڑا اثر رہا۔ (۲۸)

صحابہ کرام پر ظلم و ستم:-

مشرکین مکنے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ اسلام سے روکنے کے لئے نہ ابو طالب سے مدد رہی ہے نہ آپ کسی قسم کی لائق و ترغیب سے متاثر ہو رہے ہیں، ادھر اسلام ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے بات چیت کا راستہ چھوڑ کر ظلم و زیادتی کا حربہ اختیار کر لیا، صحابہ کرام پر طرح طرح کی مصیبتیں اور اذیتوں کے پھاڑھانے لگے۔ مثلاً

☆ حضرت بلاں ^ج جب شی لنسل اور امیہ بن خلف کے غلام تھے، جب وہ اسلام لائے تو ان کے آقا امیہ نے ان پر بہت ظلم کیا، اس نے اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ جب دھوپ تیز ہو جائے تو بلاں کو گرم پھروں پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پھر رکھ دیا جائے تاکہ حرکت بھی نہ کرسکیں، ان کی پیٹھ جل جل کر داغدار ہو گئی تھی، حضرت بلاں ^{اس} ستم کو سہتے تھے مگر اف نہ کرتے تھے، وہ کہتا تھا: بلاں! اگر خیریت چاہتا ہے تو محمد کے دین کو چھوڑ کر ہمارے دین پر لوٹ آ، ورنہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ حضرت بلاں ^{کی} زبان پر اسکے جواب میں احمد احمد کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا، ایک دن حضرت ابو بکر ^{اذھر} سے گذرے تو بلاں کی یہ کیفیت دیکھ کر بے چین ہو گئے اور امیہ سے کہا ”تو اس غریب کے معاملہ میں اللہ نے نہیں ڈرتا، کب تک اسی طرح ظلم کرتا رہے گا؟“ اس نے کہا آپ ہی نے تو اس کو خراب کیا اور بے دین بنایا ہے، آپ ہی اس کا حل نکالیں، حضرت ابو بکر ^{نے} حضرت بلاں ^{کو} ان کے آقا سے خرید کر آزاد فرمادیا، تب جا کر ان کی یہ مصیبت ختم ہوئی۔

☆ حضرت یاسر ^{قطان} کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے، یہیں شادی کر لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد یہ اپنے پورے گھرانے — بیٹے عمار، عبد اللہ، اور بیوی سمیہ — کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، چونکہ مکہ

(۳۸) ان کوششوں میں ایک کوشش سمجھوتے والی بھی تھی کہ ایک سال ہم آپ کی خدا کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیا کریں، آپ نے صاف انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ”سورہ کافرون“ نازل فرمائی جس میں اس سمجھوتے سے مسلمانوں کی برآت کا اعلان کر دیا گیا۔ (بیان کیپر ۵۲۲)

میں ان کا کوئی خاندان قبیلہ نہ تھا جو ان کی مدد کر سکے اس لئے قریش مکہ نے اس پورے گھر انے پر سخت مظالم کو روا رکھا، دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت میں ان کو لٹا کر اس قدر مارتے کہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی پانی میں غوطے لگاتے، کبھی انگاروں پر لٹائے جاتے، کبھی لوہے کی زر ہیں پہنا کر دھوپ میں کھڑے کئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے تھے مگر وہ دور بردا مشکل دور تھا، آپ ان کو دعا میں دیتے، صبر کی تلقین کرتے اور جنت کی بشارت دیتے رہتے تھے۔

☆ حضرت سمیہؓ حضرت عمارؓ کی والدہ تھیں، ان پر بھی بوڑھی عورت ہونے کے باوجود بہت ستم ڈھانے گئے، ایک دن حسب معقول لوہے کی زر ہیں پہنا کر ان لوگوں کو دھوپ میں ٹھیرایا ہوا تھا، اتنے میں ابو جہل ادھر سے گزر ا تو اس بد نصیب نے اس بوڑھی عورت کی شرمگاہ پر صرف مسلمان ہونے کے جرم میں ایک برچھی اس زور سے ماری کہ اسی وقت شہید ہو گئیں، اس خاتون کو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے ابو جہل سے اسی دنیا میں انتقام لیا، بدر کی جنگ میں ابو جہل جہنم رسید ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارؓ کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری ماں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قتل فرمادیا۔ (۳۹)

☆ حضرت خبابؓ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، یہ امنار کے غلام تھے، ام امنار آپ کو سخت اذیتیں پہنچاتی تھیں، ایک دن دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ایک شخص کو ان کی سینہ پر کھڑا کر دیا تا کہ حرکت بھی نہ کر سکیں۔

(۳۹) خواتین اسلام کیلئے یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دیئی شروع فرمائی تو سب سے پہلے آپ بیوت دعوت کو حضرت خدیجہؓ نے قبول کیا، جب نبی اپنے ہی وطن میں دعوائے بیوت کی وجہ سے اجنبی بنادیئے گئے اور طرح طرح سے ستائے جاتے تھے تو آپ کی دیکھ رکھی اور منہ ہاتھ دھلانے کا شرف حضرت زینبؓ کو حاصل ہوتا تھا، جب راہ خدا میں جان دینے کی باری آئی آپ کی تو سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق حضرت سمیہؓ کو ہوئی۔ عورتیں اس پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ صحیح ہے لسر جمال نصیب مَمَّا أكْسَبَهُوا وَلِلنَّسَاءِ نَصِيبٌ مَمَّا أكْسَبَهُنَّ

☆ ابو قلیبہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے، انہیں بھی ان کا آقا ناقابل تصور اڑتھوں میں بنتا کرتا تھا، بھی زنجروں میں باندھ کر گرم ریت پر گھسیتا اور کبھی بیڑیاں پہننا کر جلتی زمین پر الٹالٹا دیتا تھا، ایک مرتبہ اسی حال میں گلا گھونٹ رہا تھا کہ صدیق اکبر نے دیکھ لیا۔ آپ کو حم آیا تو خرید کر آزاد فرمادیا۔

☆ حضرت زنیرہ عمر فاروق کی باندی تھیں، اسلام سے قبل انہوں نے ان پر بہت سختیاں کی تھیں، ابو جہل بھی ستاتھا، مگر وہ پوری ثابت قدی سے اپنے دین واہیمان پر قائم رہیں، اذتھوں کی شدت سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ کے حکم سے مجرماتی طور پر واپس آگئی۔

معزز لوگ بھی زد میں تھے:-

یہ حضرات تو خیر غلام اور کمزور لوگ تھے جن کا کوئی یار و مددگار نہ تھا، ان بد نصیبوں نے اسلام دشمنی میں اپنی قوم کے باعزت اور صاحب مرتبہ لوگوں کو بھی نہیں بخشا، مثلاً ☆ صدیق اکبر چونکہ مکہ کے شریف و بالا خلاق لوگوں میں سے تھے، تاجر تھے اور بہت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے مگر جب وہ ایمان لے آئے تو مکہ والوں کی نظر میں انہیاں ناپسندیدہ شخصیت بن گئے، ان ظالموں نے ایک مرتبہ انہیں اور حضرت طلحہؓ کو رسیوں سے باندھ کر جکڑ دیا تھا، ایک مرتبہ جب حضرت ابو بکرؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے چھڑانے کے لئے مجمع میں گھس پڑے تھے تو مشرکین غیض و غضب کے عالم میں ان پر بھی جھپٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ زخمی ہو گئے۔

☆ اسی طرح حضرت ابوذر غفاریؓ اپنے قبیلے میں بڑی حیثیت کے آدمی تھے، جب وہ اسلام لائے تو حرم میں جا کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، مشرکین نے انہیں اس قدر مارا کہ زمین پر گر پڑے، حضرت عباسؓ نے پیچے بچاؤ کر کے بچا لیا۔

☆ ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا واقعات ہجرت

کے ضمن میں آگے آ رہا ہے۔

☆ حضرت عثمانؓ کو کسی اور نہیں خود ان کے چھانے رسیوں سے باندھ کر پٹائی کی۔

☆ حضرت زبیرؓ بن العوام کو ان کے چھانے میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دیا کرتے تھے۔

یہ چند واقعات بطور نمونہ کے ذکر کئے گئے ہیں، ورنہ اسلام لانے اور اسلام کی نصرت و مدد کرنے کے سلسلہ میں اُن حضرات کے صبر و استقامت کے بے شمار واقعات ہیں، ان عبرتاتک واقعات کا مطالعہ ایمان کی تازگی اور یقین کی مضبوطی کیلئے بے حد مفید ہے۔ اللہ اکبر! کیسی قربانیوں کے بعد اسلام کو سر بلندی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی طرف سے حضرات محلہ کرامؓ کو بہترین جزاۓ خیر عطا فرمائے۔
نبی کریمؐ سے عداوت و دشمنی:-

مکہ والے عام اور خاص مسلمانوں کے علاوہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر طرح تکلیف اور مصیبت میں بنتار کھتھتے تھے، کوئی آپ کو کہا ہن کہتا تو کوئی ساحر کہتا، کوئی آپ کو جنون و پاگل پن کا طعنہ دیتا تو کوئی کہتا کہ آپ سلطنت و حکومت کے شوق میں یہ سب کر رہے ہیں۔ ابو جہل اور ابو لهب تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے تھے، جس وقت آپ کلمہ لا اله الا الله کی دعوت کو لے کر لوگوں اور بازاروں میں نکلتے تو کوئی گالیاں دیتا تھا، کوئی سرمبارک پر خاک ڈالتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا اور کوئی آپ کے دروازے پرنجاست ڈال جاتا تھا، ایک مرتبہ عقبہ بن ربیع نے گلے میں پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کر دم گھٹنے لگا اور آپ گھٹنوں کے بل ز میں پر گر پڑے، ایک مرتبہ قریش نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ایک مرتبہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل کے حکم سے ایک شخص نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی او جھڑی لا کر رکھ دی اور سب مل کر ہنسنے لگے، بے چاری حضرت فاطمہؓ نے اپنے نہنے نہنے ہاتھوں سے اپنے والد کی پیٹھ سے اس بوجھ کو ہٹایا۔ ایک مرتبہ دوستوں کے

ورغلانے سے عقبہ نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔

حضرت حمزہؑ کا اسلام:-

ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے اتنے میں ابو جہل بھی وہاں سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہایت سخت کلامی سے پیش آیا، آپ کے دین کو بُرا بھلا کہا، اور کچھ بد تیزی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے اور اس کی بد اخلاقی کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ تماشا بن جدعان کی باندی دیکھ رہی تھی اس سے رہا نہ گیا، اس نے حضرت حمزہؑ کی واپسی کے بعد سارا واقعہ ان سے کہہ سنایا، حضرت حمزہؑ کی رگِ حمیت پھٹک گئی، ابو جہل حرم میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پنچ کراپی کمان کا مٹھا اس کے سر پر زور سے مارا اور کہا کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے! آج سے میں خود بھی اس کے دین پر ہوں، پھر آپ کے پاس آ کر اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے دین کو علی الاعلان ظاہر کریں، کسی کی پرواہ کریں۔“ حضرت حمزہؑ نکہ کے بااثر نوجوان تھے، ان کا مسلمان ہونا کفار کہ پر بہت گراں گزرا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام کے ذریعہ شوکت و قوت پہنچائی۔ (۲۰)

حضرت عمرؓ کا اسلام:-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مخصوص حالات اور اسلام دشمنی میں دن بہ دن اضافہ کے منظر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ”اے اللہ! عمر بن الخطاب یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل جیسے بااثر افراد کے ذریعہ اسلام کی نصرت و مدد فرمائے“، یعنی انہیں اسلام کی ہدایت دیدیجئے

(۲۰) حضرت حمزہؑ اس وقت جذبات میں اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ جب گھر پہنچا تو میرے دل میں طرح طرح کے وسو سے آتے رہے کہ میں نے اپنادین چھوڑ کر کچھ غلط اقدام تو نہیں کیا، رات اسی تباہ میں گذر گئی، صبح سے قبل میں حرم میں پہنچا اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اسی وقت دل تمام وساوس سے خیال ہو گیا، جب صبح ہو گئی تو میں آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سب سر گزشت سنادی، آپ نے مجھے دعا نہیں دیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ (برہام المصطفیٰ/ ۱۸۷)

تاکہ ان کے اثر و سوخت کے ذریعہ کمزور مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچایا جاسکے اس کے جواب میں اللہ پاک کی طرف سے عمر بن خطاب کی ہدایت کا فیصلہ ہوا، حضرت عمرؓ مکہ مکرمہ کے بہت ہی طاقتور، بارعب، اور باشر آدمی تھے۔ شروع شروع میں مسلمانوں کی مخالفت اور ایڈ ارسانی میں وہ بھی شامل تھے، اللہ کا کرنا یہ کہ ان کی بہن فاطمہؓ اور بہنوئی سعیدؓ بن زید نے اسلام قبول کر لیا مگر حضرت عمرؓ کے ڈر سے اس کو خفی رکھا، حضرت خبابؓ فاطمہ کے گھر جا کر انہیں قرآن سناتے اور یاد کرتے تھے، ایک دن حضرت عمرؓ اپنی تواریخ راتے ہوئے بڑے جوش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کے آج تو ان کا خاتمہ ہی کردوں گا راستہ میں حضرت ابو عیمؓ سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے پوچھا: عمر کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے: ”محمدؐ کے قتل کا ارادہ ہے، کیوں کہ اس شخص نے قریش میں تفریق ڈال دی ان کے عقلمندوں کو بیوقوف قرار دیا، ان کے دین کو غلط کہا ان کے خداوں کو باطل بتالیا۔“ ابو عیم نے کہا: تمہیں اپنے گھر کی تو خبر نہیں کہ گھر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، چلے ہو محمدؐ کو قتل کرنے! عمر نے پوچھا: گھر میں کون مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن اور بہنوئی خود مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمرؓ نے میں بھراۓ ہوئے اپنی بہن کے گھر ہو چکے، وہاں حضرت خبابؓ ان لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، عمر کی آہت محسوس کر کے حضرت خبابؓ چھپ گئے، وہ صحیفہ بھی چھپا دیا گیا، لیکن حضرت عمرؓ قرآن کا پڑھنا سن چکے تھے، گھر میں داخل ہوتے ہی بہنوئی سے مواذہ کرتے ہوئے ان سے بھڑپڑے، بہن شوہر کو بچانے کے لئے بیچ میں آئی تو اسے ایک طمانچہ رسید کر دیا، یہ صورت حال دیکھ کر بہن اور بہنوئی نے صاف کہہ دیا کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں تمہارا جو جی چاہے کرو حضرت عمرؓ نے زخمی بہن کو دیکھا تو نرم پڑ گئے اور کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلا و؟ بہن نے دیدیا انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، یہ صحیفہ سورہ طا پر مشتمل تھا، عمر کا دل قرآن کریم پڑھ کر بہت متاثر ہوا، اور اسلام کی جانب جھک گیا، حضرت خبابؓ جو چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور خوشخبری

سنائی کہ کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لئے دعا فرمائی تھی، غرض! ان لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت عمرؓ اور ارقمؓ ہوئے تھے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خواص صحابہؓ موجود تھے حضرت عمرؓ کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر سب کو تشویش ہوئی، حضرت حمزہؓ نے کہا آنے دو، اگر وہ بھلانی کے ارادہ سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہی کی تلوار سے ان کو منڈادیا جائیگا، اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا "اللہ پر اس کے رسول پر اور اسکی کتاب پر ایمان لاتا ہوں" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر نفرہ تکبیر بلند کیا، اور تمام مسلمانوں نے بھی بہیک زبان تکبیر کہی، صحابہ کرامؓ میں عمرؓ کے اسلام سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رضی اللہ عنہم یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بنا گئی دہل اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور خدا کے گھر میں سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ان کے قبول اسلام کے بعد ہی ادا کی گئی، ان کے مسلمان ہونے سے قریش اور بھی جل بھن گئے لیکن خدا جسے رکھا سے کون چکھے؟

ہجرت جبše:-

ان مظلوم و مجبور اور بے بس مسلمانوں کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں جبše کی جانب ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی، پہلی مرتبہ امر مدار پانچ عورتوں نے چھپ کر مکہ مکرمہ سے جبše کی جانب ہجرت کی، مگر ایک غلط فہمی کی وجہ سے یہ حضرات مکہ واپس آگئے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ہجرت کے بعد ایک دن حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ نے "سورۃ النجم" کی تلاوت فرمائی جب آیت سجدہ پر ہوئے تھے تو تمام مسلمان سجدہ میں گر گئے، مشرکین جو وہاں موجود تھے وہ بھی آیات قرآنیہ کے اثر سے اور مسلمانوں کے فوراً سجدہ میں گر جانے کے ماحول سے مرعوب ہو کر سجدہ میں گر گئے، تمام حاضرین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ میں تھے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ والے سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہ تھا، بھی خبر ہوتے ہوئے جبše

پھوٹ گئی، مہاجرین خوشی میں اپنے وطن واپس آگئے، مگر جب ظالموں کا پھر یہی ستم شروع ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ وہ جب شہ چلے جائیں، اس مرتبہ چھیسای مرداور سترہ عورتوں نے هجرت فرمائی۔

بشرکین نے وہاں بھی نہ چھوڑا:-

بشرکوں نے شاہِ جب شہنجاشی کو بھی گراہ کرنا چاہا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ بشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان ان کے مظالم سے نجح کر اور دوسروں ملکوں میں پناہ لے کر آرام سے رہ رہے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں اس طرح اسلام دبنے کے بجائے مزید پھیل نہ جائے، اس لئے انہیں وہاں سے واپس بلا لینا چاہئے تاکہ اسلام مکہ ہی تک محدود رہ جائے، اور ہم ان پر ظلم و زبردستی کر کے انہیں دوسروں کے لئے عبرت بناتے رہیں، چنانچہ انہوں نے ایک وفد عمر بن عاصی کی قیادت میں قیمتی ہدایا و تحائف کے ساتھ بادشاہ جب شہ ”نجاشی“ کے دربار میں بھیجا، انہوں نے یہ ہدایا بادشاہ کے سامنے پیش کر کے اس سے یہ درخواست کی کہ ہمارے علاقے کے کچھ بے وقوف غلام اپنی قوم کا دین چھوڑ کر بلکہ بے دین ہو کر آپ کے ہاں چلے آئے ہیں، یہ لوگ نہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں نہ انہوں نے آپ کے دین کو قبول کیا ہے، بلکہ وہ ایک ایسے دین کے پیرو ہو گئے ہیں جس کو نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم اس سے واقف ہیں، اسلئے آپ انہیں ہمارے حوالہ فرمادیں تاکہ ہم ان لوگوں کو اپنے وطن واپس لے جاسکیں۔

مگر بادشاہ نیک مزاج اور انصاف پسند تھا، اس نے بشرکین کی اس شکایت کے بارے میں تحقیقات کو ضروری سمجھا، اس لئے مسلمانوں کو دربار میں طلب کر کے اس کی حقیقت معلوم کی۔

حضرت جعفرؑ کے تین سوال :-

جب مسلمان دربار میں پھوٹے تو حضرت جعفرؑ نے بادشاہ سے خواہش کی کہ میں ان

لوگوں سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں، نجاشی نے اجازت دی تو حضرت جعفرؑ نے پوچھا: کیا ہم کسی کے غلام ہیں اور اپنے آقاوں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں؟ عمر بن عاص نے کہا: آپ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد اور شریف لوگ ہیں! حضرت جعفرؑ نے پوچھا: کیا ہم کسی کا ناحق خون کر کے آئے ہیں؟ عمر بن عاص نے کہا: نہیں! کسی کا ایک قطرہ خون بھی نہیں بھایا ہے! حضرت جعفرؑ نے پوچھا: کیا ہم کسی کامال بخرا کر لائے ہیں؟ عمر بن عاص نے کہا: نہیں! ایک پیسہ بھی نہیں چڑائے ہیں!۔ یہ سن کر نجاشی نے مشرکین سے کہا پھر آخر کس وجہ سے تم لوگ ان پر اپنا حق جتار ہے ہو اور یہاں سے لے جانے کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عمر بن عاص نے کہا: ہم اور یہ پہلے ایک ہی دین پر تھے، اب یہ لوگ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہیں، نجاشی نے حضرت جعفرؑ سے پوچھا کہ تم لوگ پہلے کس دین پر تھے اور اب کیا دین اختیار کرنے ہو؟ حضرت جعفرؑ نے عرض کیا!

نجاشی کے دربار میں تعارفِ اسلام:-

”اے بادشاہ! ہم پہلے مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے پڑوئی کا خیال نہیں رکھتے تھے اور حرام کو حلال کر لیتے تھے، ایک دوسرے کا خون بھاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسے نبی کو مبعوث فرمایا جس کی وفاداری، سچائی، امانت داری کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک له کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہمیں صلدہ رحمی کرنے اور پڑو سیوں کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا، نماز روزہ کا پابند بنا دیا تو ہم نے ان کی دعوت اور ان کا دین قبول کر لیا۔ اب ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے“ جب نجاشی کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس نے حضرت جعفرؑ سے خواہش کیکہ ان پر نازل ہونے والے آسمانی کلام میں سے کچھ سنائیں! حضرت جعفرؑ نے ”سورہ مریم“ پڑھ کر سنائی۔ قرآن کریم کو سن کر نجاشی اور اس کے درباری بے ساختہ رو نے لگے۔

حضرت جعفرؑ کی صاف ستری اور سچی گفتگو اور قرآنؐ کریم کی تلاوت سے متاثر ہو کر شاہنجاشی نے سب مسلمانوں کو امن و اطمینان کے ساتھ اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور مشرکین سے صاف کہہ دیا کہ میں انہیں تم لوگوں کے سپرد نہیں کروں گا۔

ایک اور ناکام کوشش:-

اگلے روز مشرکین کے وفد نے مشورہ کر کے بادشاہ کو درغذانے کی ایک اور کوشش کی، انہوں نے بادشاہ جب شہ سے کہا کہ ”یہ لوگ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں“، نجاشی چونکہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہ حرہ بے ضرور کار آمد ہوگا، مگر اس نے پھر مسلمانوں کو طلب کیا اور اس عقیدہ کی بابت دریافت کیا، حضرت جعفرؑ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ”وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں جسے اللہ نے کنواری مریم کے سینہ میں ڈالا تھا“ نجاشی نے یہ سن کر کہا: حضرت عیسیٰ کی حقیقت اس سے ایک تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس واقعہ سے نجاشی کا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کہ مسلمانوں کو ان لوگوں کے حوالہ کرنا ہرگز مناسب نہیں، چنانچہ اس کے بعد مسلمان تو اچھے مقام اور اچھے پڑوسیوں میں رہنے لگے اور مشرکین مکہ خائب و خاسر ہو کر ناراد و اپیں چلے آئے۔ اور خود نجاشی کو اس عدل و انصاف اور حق پسندی کا صلد من جانب اللہ یہ ملا کہ اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی توفیق دی، جب اس کے انتقال کی خبر ملی تو نبی کریم علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر صحابہؓ نے مدینہ منورہ میں اس پر غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ (۲۱)

(۲۱) امام ابوحنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ درست نہیں ہے، ان کے ہاں جنازہ کی موجودگی شرائط صحت میں سے ہے، نجاشی پر حضور علی اللہ علیہ وسلم نے جو غائبانہ نماز پڑھائی تھی وہ یا تو آپ کی خصوصیت تھی، یا مجراتی طور پر جنازہ آپ کے سامنے موجود تھا، یا الغوی طور پر دعائے مغفرت کو صلوٰۃ سے تعبیر کیا گیا امام احمد اور امام شافعی رحمہما اللہ کے ہاں جائز ہے۔ تفصیل نقد کی کتابوں میں دیکھ لجھے۔

جس بے جا:-

جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام[ؐ] نے ہجرت کر کے دوسرے ملک میں پناہ حاصل کر لی اور ان کے ظلم و تم سے نجات پا گئے، ادھر حضرت حمزہؑ اور حضرت عمرؓ جیسے با اثر لوگوں کے اسلام لے آنے سے مسلمانوں کی بہت اور بڑھ گئی، اسلام مکہ کے علاوہ دیگر قبیلوں اور علاقوں میں بھی بڑھنے اور پھیلنے لگا ہے تو انہوں نے مکہ کے سرداروں کی ایک میٹنگ بلاائی اور اس میں بالاتفاق بالاتفاق طئے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان کے خاندان بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اس سلسلہ میں ایک عہد نامہ لکھوا کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا گیا کہ ”بنی ہاشم سے نہ کوئی رشتہ ناطہ کرے نہ خریدو فروخت کرے، نہ کسی قسم کی امداد کرے اور نہ کوئی تعلق رکھے“^(۲۲) یہ نبوت کا ساتواں سال تھا اس بائیکاٹ کی وجہ سے بنی ہاشم نے نہایت مجبور ہو کر مکہ کی ایک گھاٹی میں پناہ لی، تین سال اسی طرح گذر گئے، یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آواز گھاٹی کے باہر سنائی دینے لگی، اس زمانہ میں ان لوگوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بچائی، بعض لوگوں کو انکی اس حالت پر حرم بھی آ رہا تھا مگر سردارِ ان قریش کے خوف سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، البتہ بعض شریف لوگ چوری چھپے کوئی امداد کر جاتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیک کے کیڑوں نے اس اعلان نامہ کو چاٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے علم پا کر ابوطالب کو اسکی خبر دی، ابوطالب نے سردارِ ان قریش کو مطلع کیا اور یہ اعلان دھکلانے پر اصرار کیا، جب نکال کر دیکھا گیا تو آپ نے جیسے خبر دی تھی اسی طرح نکلا، ادھر قوم کے چند شریف لوگ بھی طئے کر چکے تھے کہ اس ظلم کو کسی طرح ختم کرنا ہی ہے ان لوگوں نے بھی دباو ڈالا، اس طرح اس آفت سے تین برس بعد آپ کو اور آپ کے خاندان کو نجات ملی۔

(۲۲) اس مقاطعہ کی کتابت کرنے والا ”بغیض بن عامر“ تھا جس کے ہاتھ اس گستاخی کے نتیجے میں شل ہو گیا، اور اس کی تحریر کو دیک کے چاٹ کر صاف کر دیا تھا، سو اے لفظ اللہ کے سب حروف ختم ہو گئے تھے۔ (ابداب الدلائل: ۹۷/۳)

غم کا سال :-

قریش کے اس جس بے جا اور ظالمانہ بائیکاٹ کے زخم ابھی سوکھنے بھی نہیں پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عظیم حادثات کا سامنا کرنا پڑا، اور دل کے زخم ہرے ہو گئے، کیوں کہ اس سال تھوڑے تھوڑے وقفہ سے پہلے حضرت ابوطالب کا پھر حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہو گیا، یہ بیوت کا دسوال سال تھا چچا ابوطالب کے انتقال سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش فرمائی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، انہوں نے سرداری کے پاس لحاظ میں اس دولت سے اپنے کو محروم رکھنا پسند کیا مگر ایمان لانے کو گوارانہ کیا (۲۳)۔ ان کی جدائی ہی آپ کیلئے کچھ کم صدمہ نہ تھا ان کے ایمان سے محروم گزر جانے کا صدمہ مزید برآں ہو گیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہؓ دونوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اسباب کی اس دنیا میں بلاشبہ بہت بڑا سہارا تھے، اسی لئے یہ سال حضور کیلئے بہت ہی حزن و غم اور آزمائش کا سال ثابت ہوا۔ کتب سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ ابوطالب کے انتقال کے بعد آپ کے دشمنوں کی ہمتیں اور بڑھ گئیں، انہوں نے ایڈ ارسانی کا سلسلہ بدستور جاری رکھا بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا۔

طاائف کا سفر :-

قریش کے ظلم اور زیادتیوں سے عاجز آ کر اور یہ سوچ کر کہ دعوتِ دین کے کام کو جاری رکھنے کیلئے اسباب کے درجہ میں کسی بااثر آدمی کی حمایت حاصل کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”طاائف“ کا سفر فرمایا، امید یہ تھی کہ وہ تین بھائی (۲۴) جو طائف کے سردار اور شریف لوگ سمجھے جاتے ہیں آپ کی بات سمجھیں گے اور دعوتِ اسلام کو قبول کر لیں گے،

(۲۴) بخاری و مسلم میں ہے کہ جب ابوطالب کا آخری وقت ہوا تو کسکے سرداران کے پاس آئے اور بار بار خواہش کی کہ آپ آخری وقت اپنے آپائی دین کو چھوڑ کر بھتچہ کا دین اختیار نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو قوم کی بڑی بے عزتی ہو گی۔ ادھرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی لجاجت سے ابوطالب کو اسلام کی طرف نہ لاتے رہے، حتیٰ کہ صرف ایک مرتبہ کلمہ شہادت زبان سے ادا کر لینے پر قیامت میں شہادت دینے کا وعدہ فرمایا مگر ابوطالب نے نہ مانا اور یہ کہا ”اگر میری قوم کی طرف سے عار اور طعنے کا اندریشہ نہ ہوتا تو میں ضرور تھماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا“

ان کے قول اسلام کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، اس طرح تبلیغ اسلام آسان ہو جائیگی۔ مگر خلافِ توقع و امید ان تینوں نے آپ کو مایوس کر دیا، اور یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی بلکہ کسی مسافر کے برابر اکرام تک نہ کیا، اُنٹا بستی کے بدمعاشوں کو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی، ذہنی اور جسمانی تکالیف کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اوپاشوں کے پتھر اور میں زخمی ہو کر نکلے، راستے میں انگور کا ایک باغ نظر آیا تو اس میں پناہ لے کر اطمینان کا سانس لیا۔

حضرت عداس[ؓ] کا اسلام:-

انگور کا یہ باغ بھی دو شرک بھائیوں کا تھا، مگر ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر جذبہ رحم پیدا ہوا، انہوں نے اپنے عیسائی غلام ”عداس“ سے کہا کچھ انگور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس شخص کو دیدو، عداس انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہا انگور کھا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”بسم اللہ“ کہہ کر کھانا شروع کیا، عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا اور کہا اس علاقہ کے لوگ تو یہ کلمہ کہتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے بتلایا کہ میرا نام عداس ہے اور ”نیزوئی“ کا رہنے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا: اللہ کے نیک اور صالح بندے یونس بن متی کے شہر کے ہو؟ عداس نے پوچھا: آپ کو یونس بن متی کا کیا پتہ؟ فرمایا ”وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی اللہ کا نبی ہوں“ عداس خوشی سے اچھل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو، ہاتھوں کو اور قدموں کو بوسہ دیا، پھر اس نے آپ کا دین قول کر لیا۔ اس کے مالکوں نے اس کو بہت ملامت کی اور ترغیب دی کہ تمہارا دین ان اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی: انک لَا تهْدِي مِنْ أَحْبَبَتِ الْآيَةَ لِيَتَّبِعَ نَبِيًّا! آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ (مسلم: ۲۲۳)

(۲۲) طائف کے ان تین سرداروں کے نام مسعود، جبیب، اور عبد یا لیل تھے۔ ان تینوں میں سے ایک نے آپ کی بات سن کر تعزہ دیتے ہوئے کہا: ”اچھا! آپ کو خدا نے تیخبر پنا کر بھجو ہے“ دوسرے نے کہا: ”آپ کے علاوہ نبی بنانے کیلئے خدا تعالیٰ کو کوئی اور نہ ملتا تھا“ تیسرا نے کہا: ”میں آپ سے بات نہیں کروں گا“ (سرابہیرا ص: ۱۸۰)

کے دین سے بہتر ہے اس کو مت چھوڑ و مگر عدا اس نے سنی کر دی اور اسلام پر قائم رہے۔
محبوبِ خدادست بہ دعا:-

اس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست بہ دعا ہو کر اللہ رب العزت سے مناجات فرمائی اور اپنی بے سرو سامانی و پریشانی کا شکوہ محبت کرتے ہوئے عرض کیا:
 اے اللہ! میں اپنی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کی جانب سے کی جانیوالی توہین کی آپ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین! آپ ہی کمزوروں کے رب ہیں، اے میرے رب آپ مجھے کس کے حوالہ کر رہے ہیں؟ ایسے بے گاںوں کے جو سخت مزاج اور ترش رو ہیں یا ایسے اپنوں کے جن کا مجھ پر زور ہے؟ پھر بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو یہ سب مجھے گوارا ہے، البتہ اگر ان آزمائشوں سے عافیت حاصل ہو جائے تو وہ میرے لئے زیادہ سہولت و راحت کا سبب ہوگی۔ میں آپ کی ذات کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے آسمان و زمین روشن ہیں، اس بات سے کہ آپ کا غصہ اور ناراضگی مجھ پر نازل ہو، مجھے بس آپ کی رضا کی فکر ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری قوتیں اور طاقتیں آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اللہ نے پہاڑوں کے فرشتہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایک اشارہ بھی ہو جائے تو طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ اکبر! یہ ہیں نبی رحمت! اتنا سب کچھ سہنے کے باوجود ان ظالموں کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بدعا فرمائی اور نہ ان کی تکلیف گوارا کی۔ اللهم صل و سلم علیہ و علی آلی

جنت کی حاضری اور قبولِ اسلام:-

طاائف سے واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن "وادیِ نخلہ" میں ٹھیکرے تھے بیہاں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنت کی ایک جماعت پہنچی، انہوں نے قرآن سنات تو بہت متاثر ہوئے، خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کو بھی دعوتِ اسلام دینا شروع کر دیا، سورہ احباب کے آخری رکوع میں اس واقعہ کا تفصیلی ذکر ہے۔

مکہ مکرمہ واپسی:-

مکہ والوں کا دستور تھا کہ مکہ سے نکل جانے والوں کو واپس آنے نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی انہوں نے یہی طنے کیا کہ اب آپ کو مکہ میں آنے نہ دیا جائے، مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے چند بااثر لوگوں سے پناہ طلب کی انہوں نے اپنے عذر پتلا کر انکار کر دیا، مطعم بن عدی بھی مکہ ایک بااثر اور شریف آدمی تھے،^(۲۵) انہیں معلوم ہوا تو وہ آپ کو شہر میں لے آئے اور اعلان عام کیا کہ "محمد" میری پناہ میں ہیں۔ آپ مکہ میں داخل ہو کر سیدھے حرم شریف میں گئے، حجر اسود کا استیلام کیا، نمازو دعا کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔

واقعہ معراج:-

دعوتِ تبلیغ کے آغاز سے لے کر اب تک مسلسل آزمائشوں کا سلسلہ چلتا رہا، اس سال الہمیہ اور چچا کے یکے بعد دیگرے وصال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ حال ہو گئے، طائف والوں کے رویے نے مزید دل توڑ دیا۔ جب ابتلاء امتحان کی سب منزیلیں طنے ہو گئیں،

(۲۵) مطعم بن عدی اسلام نہیں لائے، کفر کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ نیک سلوک ہمیشہ یاد رکھتے تھے، ایک مرتبہ مدینہ میں کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے، آپ نے فرمایا اگر آج مطعم زندہ ہوتے اور ان کی سفارش کرتے تو میں ضرور قبول کرتا، یہ احسان شناسی کی صفت آپ سے ہر جگہ ظاہر ہوتی تھی۔ (سرت ابن ابی / ۲۳۷)

اللہ کی خاطر مشقتیں اٹھانے اور تکلیفیں گوارا کرنے کے تمام مراحل گذر چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آزمائشوں میں سو فیصد کامیاب رہے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندیوں کی انتہا اور عزت و رفتت کے مقام اعلیٰ پر پہنچا کر دلی تسلی و شفی کا سامان فرمادیا، (۲۶) یعنی آپ کو جسم و جان کے ساتھ ایک ہی رات میں مکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچایا اور وہاں سے آسمانوں کے سفر پر یکلایا، اور اس قدر اونچا فرمایا کہ جب تک امین بھی نیچے رہ گئے۔ یہ واقعہ ستائیسویں رجب کو نبوت کے دسویں سال پیش آیا اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ

آغازِ سفر:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے، دو فرشتے گھر میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر حطیم میں لے آئے، یہاں لٹا کر سب سے پہلے آپ کا سینہ مبارک کھول کر اس میں سے قلب مبارک کو نکالا دھویا پھر اپنی جگہ سٹ کر دیا، اس کے بعد حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق نامی ایک جانور کو پیش کیا اور آپ کو اس پر سوار ہو جانے کے لئے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے تو یہ سواری چل پڑی، بہت تیز رفتار سواری تھی، آنا فاتا مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصیٰ پہنچ گئی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر بیت المقدس (۲۷) میں داخل ہوئے اور براق کو اس حلقة سے باندھ دیا جس سے ان بیاء اپنے جانور باندھا کرتے تھے، راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے کہنے پر چند مقامات مثلاً بیشہب، وادی سینا، مدین اور بیت الحرم پر دو دور کعت نماز ادا فرمائی، (۲۸) مسجد اقصیٰ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت نماز پڑھی

(۲۶) اکثر سیرت لکاروں نے واقعی ترتیب میں معراج کا واقعہ طائف کے واقعہ کے بعد قل کیا ہے، اگر یہی ترتیب صحیح ہے تو اس میں ایک لطیف کہنہ یہ بھی محل غور ہے کہ طائف کے حوصلہ میکن اور دل آزار احوال سے گذرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو پیش کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ ”اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کچھ پروانہیں“ کیا عجب کہ حق تعالیٰ اپنے ناراض نہ ہونے کا اطمینان دلانے اور دل بے تاب کو سکون بخشنے کے لئے آپ کو اس اکرام کی ایک بھلک دکھادیہ ہو جو آخرت میں آپ کے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ واللہ عالم۔

یہاں آپ کی زیارت و استقبال کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام موجود تھے۔
انبیاء کرام کی امامت:-

اسکے بعد اذا ان کبھی گئی اور صفیں درست کر لی گئیں، جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا نماز کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتدار کرنے والے سب انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر ایک مغل معتقد ہوئی جس میں اولوا العزم پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شانیاں کی، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی (گویا صدارتی) حمد و شانیاں کی، جب آپ اس سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر نکلے تو وہاں آپ کو تین پیالے پیش کئے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا، ایک پانی کا اور ایک شراب کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا: ”آپ نے فطرت کا انتخاب فرمایا“

آسمانوں کی سیر:-

اس کے بعد براق ہی پر یا کسی دوسری سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر مقرر فرشتہ جبریل سے دریافت کرتا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں اور کیا انہیں بلا یا گیا ہے؟ جبریل کے جواب کے بعد دروازہ کھل جاتا پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے، دوسرے پر حضرت بیکی و عیسیٰ علیہما السلام نے، تیسرا پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پر حضرت اور لیں علیہ السلام نے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے (۲۷) مسجدِ اقصیٰ روئے زمین کی دوسری مسجد ہے، جس کی بناء حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیاد کے چالیس برس بعد رکھی تھی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی کے مطابق دوبارہ بنیاد رکھی، بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعہ دوبارہ تعمیر کروائی، اسی کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ فلسطین میں واقع ہے مگر اس کو بیوی خلمن کہتے ہیں، بیت المقدس کے معنی پاک گھر کے ہیں، چونکہ اس جگہ بھی غیر اللہ کی پرستش نہیں کی گئی اسلئے اس کو ”بیت المقدس“ کہتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اس وقت یہاں مسجد کی عمارت نہیں تھی، اس جگہ ہی کو بیت المقدس اور مسجدِ اقصیٰ کہا جاتا تھا۔ بعد میں مسلم مسلمانوں نے صڑاپر

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور نیک تمنا میں ظاہر کیں۔ بارگاہ الہی میں حاضری:-

ساتوں میں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور^(۲۹) میں داخل ہو کر دور رکعت نماز بھی ادا کی، اس کے بعد ”سدرة المنشئ“^(۵۰) پہنچ، یہاں پہنچ کر حضرت جبریلؑ نے عرض کیا: ”میری رسائی اسی مقام تک ہے، اس سے آگے جانے کی مجھے طاقت نہیں ہے اس لئے کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ان کی میں تاب نہیں لاسکتا، اس لئے یہاں سے آپ تھا ہی جائیں گے“ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے قرب و لطف کے تمام مراتب طے فرماتے ہوئے ”عرش اعظم“ تک پہنچ، بارگاہ رب العزت میں حاضری دی، جمال الہی کے دیدار سے مشرف ہوئے، حق تعالیٰ نے جو کچھ چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائی، حق تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو مختلف نعمتیں دی گئیں

نمازوں کی فرضیت:-

انہی نعمتوں میں سے ایک نماز کی نعمت بھی ہے، جو پہلے پچاس وقت کی فرض ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ کمی کی درخواست فرمائی تو ان میں سے پینتالیس کم کر دی گئیں، صرف پانچ رہ گئیں، لیکن حق تعالیٰ نے فرمایا آپ کی سفارش سے تعداد تو کم کر دی گئی مگر ثواب پانچ پر بھی پچاس ہی کا ملے گا، چنانچہ آپ پانچ وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر اس مبارک سفر سے دنیا میں واپس تشریف

ایک گندہ تغیر کروائی اس کو قبۃ الصخراء کہتے ہیں، اور مسجد کی عمارات بھی بنوائی۔ اس جگہ قدیم عمارت کی ایک دیوار پر رہ گئی تھی، اس پر یہودی جا کر روتے ہیں اس لئے اس کو ”دیوارِ گریہ“ کہتے ہیں۔ تفصیل کیلئے دیکھئے۔ (اطلٰہ القرآن، ج: ۳۶۰)

(۲۸) یہ رب: مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، وادی سینا: جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک درخت میں سے کلام فرمایا تھا، مدین: حضرت شعیب علیہ السلام کی بُتی کا نام ہے، بیت المحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش کا نام ہے۔ (سریہ المصطفیٰ، ۲۹۱)

لے آئے، یہ طویل ترین سفر رات دیر گئے شروع ہو کر صبح صادق سے قبل ہی ختم ہو گیا۔ (۵۱) صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پورے سفر کی رواداد بیان فرمائی، اس سے اہل ایمان کی عقیدت و اعتماد میں اضافہ ہوا، کفار و مشرکین کا بعض و عناد اور بڑھ گیا، ابو جہل اس واقعہ کو مذاق کا موضوع بنایا کر زنداق قرار پایا تو ابو بکر اس کی بھر پور تصدیق کر کے صدیق کہلائے۔

حضرت ابو بکرؓ کو صدیق کا لقب:-

جس وقت آپ نے واقعہ معراج کی تفصیل سنائی تھی، ابو بکر صدیق موجود نہ تھے، جب انہیں اس کی اطلاع ملی تو فوراً کہا: اگر آپ نے اس کا دعویٰ کیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لوگوں نے پوچھا کہ آپ جیسے سمجھدار آدمی ایسی باقون کی تصدیق کر رہے ہیں؟ تو فرمایا: میں جب اس سے بھی عجیب بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ صبح و شام ان کے پاس خدا کا فرشتہ وحی لاتا ہے تو ایک دفعہ ان کے جانے کی تصدیق کیوں نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابو بکرؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے سارا واقعہ سننے کی خواہش ظاہر کی، جب آپ یہ واقعات سنارہے تھے تو صدیق اکابرؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہربات پر عرض کرتے صدقت، اشهاد انک رسول اللہ ”آپ نے مجھ فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں“ انکی تصدیق سن سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نعم! وانت الصدیق یا ابا بکر! اور تم صدیق ہو ائے ابو بکرؓ اسی دن سے ابو بکر کا لقب صدیق ہو گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(۵۲) بیت المعمور: ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، روزانہ ست بزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، یہ گمرا کعبۃ اللہ کے عین اوپر اس طرح واقع ہے کہ وہاں سے گرجائے تو سید ہے کعبۃ اللہ پر لکھ۔

(۵۳) سدرۃ پیری کے درخت کو اور ملنٹھا حد کو کہتے ہیں، ساتویں آسمان پر ایک خاص شان کا پیری کا درخت ہے، جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور ہنڈیاں ساتویں آسمان میں ہیں۔ اس پر بیضا فرشتے گنتوں کی طرح جگگاتے رہتے ہیں، زمین سے اٹھائے جانے والے اعمال پہلے ہیں پہنچتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں اور آسمان سے آنے والے احکام بھی پہلے ہیں اترتے ہیں پھر یعنی اتارے جاتے ہیں، اسی لئے اس کو ”سدۃ الملنٹھا“ کہا جاتا ہے۔ (حافظہ الصادقی: ۲۰۳/۲)

مشرکین نے امتحان لیا:-

کفارِ مکہ نے اس واقعہ کا استھصال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کی بہت کوشش کی، چنانچہ بعض لوگوں نے بیت المقدس کا ذکر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی عمارت کے بارے میں ایسے سوالات پوچھے جو آپ کے ذہن میں محفوظ نہ تھے بلکہ کوئی بھی زائر محفوظ نہیں رکھ سکتا ہے، آپ کو ان سوالات سے سخت تکلیف ہوئی کہ جواب دینے کی بظاہر کوئی صورت ہی نہیں اور اگر جواب نہیں دیتے ہیں تو لوگ اس دعوے کو غلط بتالیں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تشویش کو دور کرتے ہوئے اسی وقت بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کر دیا کہ وہ جو پوچھتے تھے آپ اس میں دیکھ کر فوراً جواب دیدیتے تھے۔ کفار حیران ہو گئے اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس رات کے کسی حصے میں جا کر آنا بھی عقلًا ممکن نہ تھا اسلئے اس کے لئے کہ کم از کم دو ماہ کا سفر درکار تھا، ادھر آپ جو صحیح کیفیت اس کی بتلار ہے تھے وہ اتنی واقعی تھے کہ جانے والے جھلکا نہیں سکتے تھے۔ (۵۲)

اللہ اپنے رسول کیلئے کافی ہے :-

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج کے بعد مکہ مکرہ میں دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھ رہے، اور مشرکین کی مخالفت و رکاوٹ کی بالکل پرواہیں کی، مکہ میں چند بد نصیب ایسے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ استہزا و تمثیر کواپنا مغلظہ بنارکھا تھا، ان میں اسود بن مطلب اسود بن عبد الجواد، ولید بن معیرہ، عاص بن واکل، اور حارث بن طلالہ پیش پیش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سلسلہ میں وحی نازل کر کے اطمینان دلایا کہ

(۵۳) یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے، ہم نے اشارہ کیا ہے کتب سیرت میں اس کی تفصیل ضرور دیکھنی چاہیے۔ (سیرۃ المصطفیٰ / ۳۱۱۶۸۷)

(۵۴) واقعہ معراج کے حیرت انگیز اور بظاہر خلافِ فطرت و عقل ہونے کی وجہ سے بعض مادہ پرستوں یا ظاہرینوں نے اس سفر میں آپ کے جسم و جان کے ساتھ اور بیداری کی حالت میں جانے کا انکار کرتے ہوئے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ یہ واقعہ آپ کا سچا خواب ہوگا۔ لیکن ان لوگوں کا یہ خیال اللہ تعالیٰ کی قدرت، قاہرہ اور حکمت بالغ کے

آپ ان کی بالکل پروانہ کریں اپنا کام جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ ان مسخروں کو خود ہی نہیں لے گا اور آپ کی بھرپور حفاظت فرمائے گا جب ”سورۃ الحجر“ کی یہ آیات (۵۲) نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بے فکری اور بے جگری سے میدانِ دعوت میں اُتر گئے، اور مکہ کے بازاروں سے لے کر گلی کوچوں تک تو حیدور سالت کی دعوت عام کر دی، جو ملت اس کو دعوت دیتے، گھروں پر پیروجی کر دعوت دیتے، بازاروں میں جا کر مختلف علاقوں سے جمع ہونے والے کارباریوں تک اپنی بات پہنچانے کا بھی اہتمام فرماتے تھے، ان دنوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جمع بھی ہوتے، توجہ سے سنتے بھی لیکن مشرکین نے مخالفت وايدار سانی کا ماحول ایسا بنا رکھا تھا کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لئے بہت کچھ سوچنا پڑتا تھا، اس لئے بات سن کر بھی کم لوگ مانتے تھے یہ صورت حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہونے لگا کہ باہر سے آنے والوں میں سے کسی اللہ کے بندے کو اگر حق کی یہ دعوت سمجھ میں آجائے اور کوئی قبلیے یا علاقے والے اسلام کی بھرپور تائید کیلئے تیار ہو جائیں تو بہت لوگ اسلام لانے کی ہمت کر سکتے ہیں، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں یہ اعلان بھی فرمانے لگے کہ ”کوئی ہے جو ہمیں اسلام کی دعوت کے سلسلہ میں اپنے قبلیے کو مرکز بنانے کا موقع دے، کیونکہ قریش کے لوگوں نے ہمارے لئے اس کام کو مشکل کر دیا ہے۔“ اس اعلان کا بھی کسی قبلیے سے ثبت جواب نہ مل سکا۔

موسم حج میں دعوتِ اسلام:-

مکہ مکرمہ میں چونکہ اس زمانہ میں بھی لوگ حج کرنے کے لئے آیا کرتے تھے، طور

انکار کے مترادف ہے، اسلئے بالکل غلط ہے، معراج کے سلسلہ میں جہوڑ علاء امت کا اجتماع ہے کہ وہ حالت بیداری میں جسم و جان کے ساتھ پیش آیا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: ”یہی تمام محدثین، متكلّمین، اور فقہاء مجہدین کا عقیدہ ہے، اس سے انحراف کی کوئی کھجاش نہیں“ (تعابری: ۱۵/۲۲)

(۵۳) ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ، وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ یعنی آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے لوگوں کو صاف صاف سادبیجے اور مشرکین کی پروانہ کیجئے، جو لوگ مذاق اُرا تے ہیں ان کے مقابلہ کے لئے آپ کو اللہ کافی ہے۔ (ابجری: ۹۵، ۹۶)

طریقوں میں اگرچہ مشرکانہ رنگ ڈھنگ پیدا ہو گیا تھا مگر حج کا سلسلہ بند نہ ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باہر سے آنے والوں کے سامنے بھی حسپ موقعہ اسلام کی دعوت پیش فرماتے رہتے تھے، یثرب میں مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزر ج، یہ لوگ بھی موسم حج میں حج کیلئے آئے ہوئے تھے، سیرت نگاروں کا ماننا ہے کہ اس زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غور سے سننے اور دل سے قبول کرنے میں ان دو قبیلوں کے لوگوں نے سب پر سبقت حاصل کر لی، چنانچہ اہل یثرب میں سب سے پہلے سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ نے اسلام قبول کیا۔ (۵۲) پھر اسعد بن زرارہ اور ان کے پانچ ساتھیوں نے اسلام قبول کیا، پھر بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ سارا یثرب مسلمان ہو گیا۔

حجاج کو بہ کانے کی کوشش:-

جب موسم حج آتا تو مشرکین مکہ بہت متذکر ہو جاتے تھے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دشمنوں سے بے پرواہ کر گلیوں سے لے کر بازاروں تک ہر جگہ اسلام کی دعوت اور کلمہ طیبہ کی آواز لگاتے رہتے تھے۔ ان کو ذریحہ تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کے باہر نہ چلی جائے، اور کہیں کوئی قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط و قوت اور محفوظ مرکز فراہم نہ کر دیں، اس لئے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے راستوں پر چوکیاں بنائی جائیں اور ہر قافلہ کو داخلہ سے پہلے منتبہ کر دیا جائے کہ مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر ہے، جو اس سے ملتا ہے اس کا خاندان بکھر جاتا ہے اور وہ خود اس کے جادو سے متاثر ہو کر دیوانہ ہو جاتا ہے وغیرہ۔ ان لوگوں نے اسے بہت نافع تدبیر سمجھ کر اختیار کیا تھا مگر اس سے انہیں تو کوئی خاص نفع نہ ہوا، المٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ہر طرف اور ہر علاقہ میں چڑھا ہو گیا۔

(۵۲) سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ یہ دو انصاری اصحاب ہیں جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ سب سے پہلے ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کریم کی ساعت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اگرچہ ابھی اپنے مسلمان ہونے کا افشاء کیا تھا مگر ان کی قوم کے لوگوں کی شہادت ہے کہ یہ لوگ حالتِ اسلام میں دنیا سے گئے، دونوں کی موت جنگ بغاٹ کے دوران ہوئی۔ (ابن ہشام ۳۶/۲)

ایک دلچسپ واقعہ:-

اس سلسلہ میں حضرت طفیل بن عمر و دوستؓ کا واقعہ بڑا دلچسپ اور سبق آموز ہے: وہ جب حج کیلئے مکرمہؓ ہوئے تو مکہ کے سرداروں نے ان سے جا کر ملاقات کی، ان کی بڑی تعریف، اور بڑے خیر خواہانہ انداز میں توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ”ہم لوگ اس قدر اہتمام سے آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ کو اس شخص کے بارے میں خبردار کر دیں جس کا نام محمد ہے وہ بڑا جادوگر ہے، اس کے جادو سے خاندان بکھر رہے اور رشتہ ٹوٹ رہے ہیں، آپ چونکہ اپنے خاندان کے بزرگ آدمی ہیں، آپ سے خیر خواہی کا تقاضہ تھا کہ ہم آپ کو قبل از وقت اطلاع دیدیں۔“

قریش نے یہ بات ان کو اتنے اہتمام اور اصرار سے کی کہ وہ بہت مرعوب ہوئے اور انہوں نے یہ معمول بنالیا کہ جب بھی مسجد حرام میں جاتے تو کان میں روئی ٹھوس لیا کرتے تھے، تاکہ آپ کی کوئی بات کان میں نہ پڑے، ایک رات وہ مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یہ قریب میں جا کر کھڑے ہو گئے، نہ سننا چاہئے کے باوجود کان میں ایک آدھ آیت ہوئی تھی ہی گئی، بہت متاثر و محظوظ ہوئے، پھر سوچنے لگے کہ سننے میں کیا حرج ہے، میں کوئی نادان تھوڑا ہی ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کرلوں گے، غلط بات ہوگی تو چھوڑ دوں گا، چنانچہ وہ سنتے ہی رہے، جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے تو وہ بھی ساتھ ہو گئے گھر پہنچ کر انہوں نے آپ سے ملاقات کی سارا قصہ سنائے کہ میں تو آپ کا کلام سننا نہیں چاہ رہا تھا مگر اللہ تعالیٰ اپنا کلام مجھے سنانا ہی چاہ رہا تھا، آخر سُن نا پڑا، ان لیا، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی بتیں رکھیں تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔

یثرب کے سعادت مندوگ:-

ان ہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں پچھلے لوگوں کی آپس میں

باتیں کرنے کی آواز سنی، باہر نکل کر دیکھا تو ”یثرب“ کے چھ آدمی گفتگو میں مصروف تھے (۵۵) آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے درمیان تشریف لائے اور انھیں اسلام کی جانب مائل کرنے کے لئے اُن کے سامنے پہلے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی پھر خداۓ واحد کی بندگی و عبادت کے سلسلہ میں نہایت ہی جامع و نافع وعظ فرمایا، یہ لوگ اگرچہ کہ مذہبًا کافر تھے، مگر یہودی قبائل کے ساتھ رہنے بسنے کی وجہ سے انھیں اس کا علم تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مبعوث ہونے والے ہیں، اور یہود اس نبی کے انتظار میں ہیں، (۵۶) اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سُن کر انھوں نے اندازہ کیا کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جن کا یہودی ذکر اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے برضاء و رغبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، اور مسلمان ہو گئے، وطن واپس ہونے کے بعد انھوں نے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات و دیدار کا اس قدر چرچا کیا کہ یثرب کی گلی گلی اور گھر گھر یہ آواز پہنچ گئی۔

بیعتِ عقبہ اولیٰ :- (۵۷)

اگلے سال سن ۱۲ انبوت میں حج ہی کے موسم میں اسی مقام عقبہ پر یثرب کے بارہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ حق پرست پر توحید کی بیعت کی، ان بارہ افراد میں پانچ تو گذشتہ سال ہی کے مسلمان تھے اور سات نئے تھے، اس کو ”بیعتِ عقبہ اولیٰ“ کہتے ہیں۔ اس طرح یثرب کی سر زمین پر اب مسلمانوں کی تعداد بارہ ہو گئی تھی، ان کی خواہش پر انہیں دین اسلام سکھانے اور دوسروں کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عميرؓ کو ان کے ساتھ کر دیا۔

(۵۵) یہ چھ آدمی اسعد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبد اللہ تھے۔ رضی اللہ عنہم ”یثرب“ مدینہ منورہ کا پہر اننا تام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ پنجھے کے بعد اس سبقتی کا نام تبدیل کر دیا، اس کا ذکر آگے آرہا ہے، وہاں تکہ ہم نے مدینہ کا سابقہ نام یثرب اور اس کے آگے سے ”مدینہ منورہ“ استعمال کیا ہے۔

مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت نے حضرت مصعب بن عميرؓ کی سرپرستی میں دعوتِ اسلام کی وہ دھوم مچائی کہ دیکھتے دیکھتے یثرب کا بیشتر حصہ اسلام کی نعمتِ عظیٰ و غنیمتِ کبریٰ سے بہرہ مند ہو گیا۔

بیعتِ عقبہؓ ثانیہ:-

نبوت کے تیرھویں سال موسم حج میں ۲۷ مسلمانوں کا قافلہ (جس میں دو خواتین بھی شامل تھیں) یثرب سے مکہ مکرمہ ہو نچا، تاکہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر اس بات کی درخواست کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی سر زمین کو اپنے ورودِ مسعود سے رونق بخشیں اور اس علاقہ میں تشریف لا کر باشندگان یثرب کو دینِ اسلام و پیغمبر اسلام کی نصرت اور مدد کا موقع مرحمت فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی سبقہ جگہ پر رات کی تاریکی میں اس شعب نبوت کے گرد اگر دجع ہو کر اپنا مدد عاپیش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کرنے سے پہلے چند شرائط ان کے سامنے رکھے، اور ان شرائط کے تسلیم کر لینے پر خدا کی رضا اور جنت کے لئے کی خوشخبری سنائی، انہوں نے اس بھاری سودے کو — جو بہت ستامل گیا تھا — نہایت مسرت و شادمانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے بیعت کے لئے اپنے ہاتھ بڑھادیئے۔ آپ نے بیعت فرمالیا، اس کو ”بیعتِ عقبہؓ ثانیہ“ کہتے ہیں۔

ایک ایمان افروزِ محفل:-

اس بیعت اور ملاقات کی تفصیل کعب بن مالک انصاریؓ کی ایک روایت میں بہت

(۵۶) جب بھی یہودیوں کی کسی سے لڑائی ہوتی اور اس میں شکست کھا جاتے تو اپنی سُلی کے لئے ان سے کہا کرتے تھے کہ آخری نبی جلد ہی آنے والے ہیں، جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو ہم ان کیسا تھوڑا کو تمہارا مقابلہ کریں گے اس شکست کا انتقام لے لیں گے، اس وقت تم ہمیں مغلوب نہ کر سکو گے۔ (ابن حماد/۱۳۰)

(۵۷) اسلام میں بیعت کی حقیقت ایک معاملہ کی تھی ہے۔ اس کی مختلف فرمیں ہیں، مثلاً بیعتِ اسلام، بیعتِ چہاد، بیعتِ خلافت و امارت اور بیعتِ تقویٰ و طہارت، احادیث صحیحہ سے ان سب بیعتوں کا ثبوت ملتا ہے اور ان کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تفصیل کیلئے دیکھئے شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا رسالہ (غمامۃ العلم: ۱۲۶-۱۲۷)

وضاحت کے ساتھ ملتی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم لوگ ۳۷ مرد رعورتیں حج کیلئے نکلے، مکہ میں چرچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے دوران کسی دن گھاٹی میں ملنے کا وعدہ ہو گیا، جس رات ہم لوگوں کو آپ سے ملنا تھا اس رات پلان بنا کر عام لوگوں کے ساتھ سو گئے، جب دوسرے لوگوں کے سوجانے کا اطمینان ہو گیا تو ہم ایک ایک دو دو کر کے اٹھتے رہے اور پوری احتیاط کے ساتھ دبے پاؤں گھاٹی کی طرف بڑھتے گئے، ایک ایک کر کے ہم تمام جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، تھوڑی ہی دیر میں حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس بن عبدالمطلب تھے، وہ اگرچہ اپنی قوم کے دین پر تھے مگر دل سے چاہتے تھے کہ بھیتیجے — نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم — کے مسئلہ کا کوئی مستقل حل نکل آئے۔ پہلے عباس نے بات شروع کی اور کہنے لگے: اے غزر ج والو! تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلیے کے آدمی ہیں اور ہم نے انہیں بڑی مشکلوں سے ان کے دشمنوں اور بد خواہوں سے بچا کر عزت و حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اب ان کا اصرار ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس چلے جائیں اور تم لوگوں ہی میں مل جائیں۔ تم لوگ اچھی طرح غور کرو کہ کیا تم لوگ ان کی دعوت اور دین کو مضبوطی سے تحام کر انکا بھر پور ساتھ دے سکو گے اور ان کے مخالفین کا جم کر مقابلہ کر سکو گے؟ کر سکو گے تو ٹھیک ہے نہ کر سکو گے تو ابھی سوچ لواور انہیں ہمارے ہی ساتھ چھوڑ دو کیونکہ یہ اس وقت اپنے وطن اور اپنی قوم میں بھر حال محفوظ ہیں۔ جب ان کی بات ختم ہو گئی تو ہم نے ان سے کہا: ہم لوگوں نے آپ کی بات سُن لی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر ہم نے عرض کیا: آپ فرمائیے، اے اللہ کے رسول! ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو عہد لینا چاہتے ہیں لے لیں! اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اسلام کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی اور اس کے بعد فرمایا: ”میں تم سے اس بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم میرا ایسا تحفظ کرو گے جیسے اپنے بچوں اور عورتوں کا

کرتے ہو۔ یہ سن کر براء ابن معروف نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً عہد کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی جان و مال سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، آپ ہم سے اس کا عہد لے لینجئے، ہم لوگ باپ دادا سے اتحاد اور عہد کی اہمیت کو گویا اور اشت میں پاتے آ رہے ہیں، براء کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ ابوالہیث نے قطع کلام کرتے ہوئے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا یہودیوں سے اتحاد چلا آ رہا تھا جو آپ سے اتحاد کے بعد ٹوٹ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمادیں تو آپ تو اپنی قوم میں مل جائیں اور ہم بے سہارا ہو کر رہ جائیں، ۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: ہرگز نہیں تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری شکست میری شکست ہے، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، جن سے تمہاری لڑائی ہو گی میں ان سے لڑوں گا اور جن سے تم صلح کرو گے میں بھی ان سے صلح کرلوں گا۔

نصرت کے لئے بے تابی:-

بیعت کے بعد براء ابن معروف انصاریؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اجازت ہو تو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو لیکر صحیح ہوتے ہی مشرکین سے جنگ شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ملا ہے، تم لوگ اپنے مقامات پر واپس چلے جاؤ۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو بطور نقیب منتخب فرمایا کہ یہ بیشتر بیشتر میں دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی ادائیگی کرتے رہنے کی تاکید فرمائی، اس کے بعد وہ قافلہ تو اپنے طلن کے لئے روانہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ ہی میں اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے اور انھیں اسلام کے احکام سے واقف کرانے کے کام میں حسب معمول مصروف ہو گئے۔

صحابہؓ کو ہجرت کی اجازت:-

مکہ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے اور جبر و تشدد کے ذریعہ کمزور لوگوں کو اسلام سے بہکانے کی جان توڑ کوششوں میں آئے دن اضافہ ہی ہوتا جا رہا

تھا، اس صورتحال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے چین و بے قرار کر رکھا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو اجازت عطا فرمادی کہ وہ اپنے محبوب ترین وطن — مکہ مکرمہ — کو چھوڑ کر خدا کے واسطے یہ رب کی جانب ہجرت کر جائیں، اس اجازت کے ساتھ ہی مسلمانوں میں خوشی و سرت کی لہر دوڑ گئی اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے ملک و مال، خویش واقارب، اپنے پرانے سب سے بے پرواہ ہو کر اپنے ایمان کی حفاظت کیلئے اپنے وطن سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور جس طرح ہوس کا یہ رب کی سرز میں منتقل ہونے لگے۔

مہاجرین کا تعاقب:-

مشرکین مکہ کو مسلمانوں کا ان کے چنگل سے نجات پا کر یہ رب میں امن و امان اور کامل اطمینان کیسا تھا! بس جانا کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ وہ اس سے پہلے بھی جب شہ کی جانب ہجرت اور وہاں کے بادشاہ کی پناہ پر تسلی ملا تھے تھا اور مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اللہ پاک نے انہیں ناکام و نامر ادلوٹا دیا تھا، وہ تو گتنی کے چند مسلمان تھے جو جب شہ گئے تھے، مگر یہ رب کی جانب ہجرت کرنے والے مسلمان سیکڑوں کی تعداد میں تھے، مسلمانوں کی ہجرت سے مکہ میں مکتوں کے محلے خالی ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل پہاڑیوں پر چڑھ کر بستی کے اجڑنے کے مرثیے پڑھ رہا تھا، اس لئے دشمنان اسلام نے مہاجرین کا تعاقب کر کے انہیں مکہ کے باہر جانے سے روکنا اور راستوں سے واپس لے آنا ضروری سمجھا۔ اس لئے یہ لوگ مہاجرین کرام کے سفر میں رکاوٹ پیدا کرنے اور سب کچھ چھین کر انہیں خالی ہاتھ کر دینے کے درپے ہو گئے، پکڑ پکڑ کے قید کیا، مشکلیں کسیں، مال لوٹ لیا، سواریاں چھین لیں حتیٰ کہ ماوں کی گود سے شیر خوار پھول کوتک اُچک لیا غرض ان بیچاروں پر مصائب کے پہاڑ توڑ نے شروع کر دئے۔ چند واقعات عبرت کے لئے ملاحظہ کر لیں۔

صبر و استقامت کے چند واقعات:-

☆ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب بھرت کا ارادہ کیا تو اپنی اہلیہ اور بچے کو لے کر نکلے، جب ان کے سرال والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے راستے میں انہیں روک لیا اور اپنی بیٹی کو زبردستی چھڑا کر واپس لے گئے، ان کے خاندان والوں کو اس کا پتہ چلا تو وہ ام سلمہؓ کے پاس آئے اور کہا کہ جب تم لوگ اپنی بچی کو لے آئے ہو تو ہم ہمارے پوتے کو تمہارے پاس رہنے نہ دیں گے، چنانچہ وہ لوگ شیر خوار بچے کو ماں سے چھین کر لے گئے، اس طرح تینوں بھر گئے اور ایک دوسرے سے پچھر گئے، شوہر تو کسی طرح بچے کر مدینہ پہنچ گئے، بیٹی کو سرال والے لے کر چلے گئے، ام سلمہ بیچاری اکیلی ہو کر اپنے میکہ میں رہ گئیں، شوہر اور بیٹی کے غم سے نڑھاں ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیا، روزانہ بھوکی پیاسی گھر سے نکلتیں اور شام تک لبستی کے باہر یہ رب کے راستے پر بیٹھی روئی روئی رہتی تھیں، اس کے بعد خاندان کے ایک آدمی کو حرم آیا تو انہوں نے ام سلمہ کے گھر والوں سے کہا ”کیوں اس کو اس مصیبت میں ڈال رکھے ہو؟ بیچاری کا رورو کے برا حال ہو رہا ہے، چھوٹ کیوں نہیں دیتے کہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے، تب ان لوگوں نے اجازت دیدی کہ شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جا، ادھر سرال والوں نے بھی بچہ کو حوالہ کر دیا، حضرت ام سلمہ ایک سواری کا انتظام کر کے اور اپنے بچے کو گود میں لے کر تن تھا مدنیہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئیں، راستے میں ایک صحابیؓ مل گئے، انہوں نے نہایت دیانتداری، اور احترام و اکرام کے ساتھ یجا کرانے کے شوہر کے حوالہ کر دیا۔

☆ حضرت عمرؓ نے جب بھرت کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ ہشام اور عیاش کو لے لیا، تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا تھا، حضرت عمرؓ اور حضرت عیاشؓ نکل گئے مگر ہشام کو مدد والوں نے روک کر قید کر لیا، یہ دونوں جب مدینہ پہنچ گئے، پیچھے ہی سے عیاش کے پچازاد بھائی ابو جمل اور حارث بھی مدینہ پہنچ گئے، ان لوگوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے قسم

کھائی ہے کہ جب تک تمہاری صورت نہیں دیکھیں گی نہ سایہ میں جائیں گی اور نہ سر میں لگنگھی کریں گی، عیاش کا دل اس بات سے نرم پڑ گیا اور وہ واپس ہونے کے لئے تیار ہو گئے، حضرت عمرؓ نے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ نہ مانے اور ان کے ہمراہ مکہ واپس ہو گئے، ان لوگوں نے راستے میں کسی بہانے سے انہیں سواری سے اتر وایا اور رسیوں میں باندھ کر اپنے قبضہ میں کر لیا، مکہ لیجا کران کو بھی بشام کے ساتھ قید کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ کو ان کی مدد کے لئے سمجھا انہوں نے بڑی حکمت عملی سے ان دونوں کو رہا کر کے مدینہ پہنچا دیا۔

☆ حضرت صہیبؓ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے ان کا راستہ روک لیا اور ان سے کہا کہ تم جب مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ اور کنگال آئے تھے، یہاں آ کر تم نے خوب مال کمایا اور اتنی دولت اکٹھی کر لی، اب تم مکہ چھوڑ کر جانا چاہتے ہو اور اپنا مال بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دی دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ وہ لوگ راضی ہو گئے، حضرت صہیبؓ نے سارا مال ان کے حوالہ کر دیا اور تھامدینہ منورہ پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صہیبؓ کی اس قربانی کی اطلاع میں تو آپ نے فرمایا: صہیب نے نفع بخش تجارت کر لی۔

☆ حضرت نبی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کے لئے نکلیں تو بتار بن اسود نے چند بد معاشوں کو لے کر ان کا تعاقب کیا اور راستہ میں روک کر ان کے شکم مبارک پر نیزہ یا برچھی مارا، حضرت نبی صاحب زمانہ تھیں اس حملے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، اسی حال میں مدینہ منورہ پہنچیں، بعد میں انہیں زخموں کی تکلیف سے انتقال کر گئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔

غرض مہاجرین کو ہجرت سے باز رکھنے کے لئے ان جلا و صفت دشمنوں نے سب کچھ کیا مگر ان کے دل سے دولتِ ایمان اور جذبہ ہجرت نکالنے میں کسی طرح کامیاب نہ

ہو سکے، چنانچہ اس ظلم و ستم کے باوجود ایک ایک کر کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد پر ب منتقل ہو گئی۔

آپ کے قتل کا مشورہ:-

اب مکہ مکرمہ میں گئی کے چند مسلمان رہ گئے تھے جو کسی مصلحت یا مجبوری کے تحت ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور اکا کا بر صحابہ میں سے تو صدیق اکبر علی مرتضیٰ کے علاوہ کوئی موجود نہ رہا تو قریش مکہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ موقعہ اچھا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے اسلام کا مشن ہی بند ہو جائے۔ اس سلسلہ میں قریش کے سرداروں نے مکہ کے مینگ ہال—دارالندوہ—^(۵۸) میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ایک مینگ طلب کی، ابھی ٹھنگلو شروع ہی ہو رہی تھی کہ ابھیں ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آ کر ان لوگوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس مشورہ میں شریک ہو گیا، مشورہ میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کرنے کی رائے دی، بوڑھے نے اسے رد کر دیا، کسی اور نے قید کر دینے کی بات کی اس نے اسے بھی مسترد کر دیا، بالآخر ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے ^(۵۹) اور اس کام کے لئے قبائل قریش میں سے ہر قبیلہ کا ایک شخص شریک رہے تاکہ بنی ہاشم انتقامی کارروائی بھی نہ کر سکیں، اس تجویز کو تمام ارکان شوریٰ نے بالاتفاق پسند اور تسلیم کر لیا، چنانچہ اس متفقہ فیصلہ کی تکمیل یعنی آپ کو قتل کرنے کیلئے مختلف خاندانوں کے منتخب نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرہ مبارک کو نگی تواروں سے گھیر لیا۔

^(۵۸) یہ مینگ ہال ”دارالندوہ“ کے نام سے مکہ میں تعمیر کیا گیا تھا، مکہ کی ساری سرگرمیاں بھیں سے انجام دی جاتی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی حکیم ابن حزم امّ کے متولی تھے، وہ قم کے موقع پر مسلمان ہوئے، اس عمارت کو بعد میں حضرت حکیم نے حضرت معاویہؓ کے ہاتھ ایک لاکھ روپی میں فروخت کر دیا اور پوری رقم صدقة کر دی۔

^(۵۹) اس مینگ کا منظر اور جامع ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ”وَهُوَ قَاتِلٌ ذَكْرٌ لَهُ كَافِرُوْنَ نَزَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مِنْ فَرِيقِ أَبْرَارٍ“ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ کافروں نے آپ کے خلاف سازش کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، یا شہر بدر کر دیا جائے، وہ اپنی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور بہترین مدبر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (سورہ انفال: ۳۰)

یہ عجیب ماجرا ہے:-

مشرکین مکہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن اور بدترین مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، عداوت اور ایذ ارسانی کی ہر ممکن صورت اختیار کرتے تھے مگر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد بھی پورا کرتے تھے اور آپ کی دیانت و امانت سے حد درجہ متاثر تھے، انہیں اپنی کوئی چیز امانت رکھانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معبر کوئی شخصیت انہیں نظر نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متعدد مشرکین کی امانتیں اس وقت بھی موجود تھیں جس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنارہے تھے، سبحان اللہ! یہ کیسی نادر دیانت اور بے مثال خوف خدا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نئگی تلواروں سے لیس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتارنے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کی امانتوں کو واپس کرنے کا انتظام فرمانے میں مشغول ہیں۔ اللهم صل و سلم و بارک علیہ و علی آلہ۔

نبی پاکؐ کی بحیرت:-

زمین والے اپنا منصوبہ بنارہے تھے اور آسمان والا اپنا فیصلہ نافذ کر رہا تھا، چنانچہ جبرئیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بتلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بھی یہ رب کی جانب بحیرت کر لینے کا حکم ہو چکایا، یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو ہدایت فرمائی کہ آج رات تم میری جگہ آرام سے سور ہو اور صبح کو دشمنان خدا کی جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں انہیں واپس کر دو، اس کے بعد تم بھی بحیرت کر کے چل آو۔

حضرت علیؓ کو یہ ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یسوسؑ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے اور اپنے رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیقؓ کے گھر پہنچ گئے۔ راستہ میں جب کعبۃ اللہ نظر آیا تو آپ اس کی جدائی کے تصور سے غمزدہ ہو گئے، اور

کعبے کو خا طب کر کے فرمایا ”خدا کی قسم! سرز مین کمہ میرے نزد یک سب سے بہتر ہے اور سب سے محبوب سرز مین ہے، اگر کمہ والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ جاتا۔“ حضرت ابو بکر صدیقؓ کو آپ نے دو تین دن قبل ہی تیار رہنے کی ہدایت دیدی تھی، اور نظامِ العمل بھی بتلا دیا تھا۔ اسلئے وہ پہلے ہی سے تیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو شخص پر فوری ضروری انتظامات کر کے گھر سے روانہ ہو گئے، مگر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام غارِ ثور میں فرمایا۔

یارِ غار اور عاشق و فادار:-

صدیقؓ اکبرؓ نے اس سفر میں اپنی جانِ ثاری و وفاداری کے عجیب و غریب کر شئے دکھائے، اپنے جسم کو سواری بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبلِ ثور کی بلندی پر لے گئے، اپنی چادر پھاڑ کر غار کے سوراخ بند کئے، ایک سوراخ رہ گیا تو اپنی ایڑی سے اس کا منہ بند کر دیا، زہریلے سانپ نے ڈس لیا تو ترپ گئے مگر کوئی حرکتِ محض اس لئے نہیں کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، راستہ چلتے وقت آگے بیچھے داہنے اور باہیں ہرست سے چلتے تھتھتا کہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ اور نہ ہو جائے، غرض یہ کہ محبت و عشق کے وہ جو ہر دکھائے کہ عشقاق کی تاریخ میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے، ظاہر ہے کہ عالم الغیب نے وحی کے ذریعہ انہیں اور ان کے خاندان کو اپنے نبی کے سفرِ بھرت میں معاون و مددگار منتخب فرمایا تھا تو یہی تو نہ فرمایا ہو گیا۔

بھرت کا یہ سفر اس وقت کے مخصوص حالات کے تناظر میں بہت ہی رازدارانہ سفر تھا، ایسے موقع پر قریب ترین، عزیز ترین اور نہایت باعتبار ساتھی منتخب کیا جاتا ہے، صدیقؓ اکبرؓ کے لئے یہی کیام تھا کہ خود حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رفاقت و رازداری کیلئے ان کا انتخاب کیا چہ جائے کہ ابو بکرؓ کا پورا گھرانہ نبوت کی اس عظیم امانت کو مکہ سے مدینہ منتقل کرنے میں استعمال ہوتا رہا۔ ابو بکر اُنکے رفیق سفر و یارِ غار، ابو بکر کا بیٹا مخبر، ابو بکر کی بیٹی

تو شہہ تیار کرنے والی، ابو بکر کا غلام راستہ کا خدمت گزار، ابو بکر کی اونٹی سواری، ابو بکر کا مال زادراہ۔ فجزی اللہ ابابکر عننا و عن سائر المسلمين احسن الجزاء۔
سردار ان قریش کی نامرادی :-

اُدھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرنے والے نوجوانوں نے صحیح تک بھی آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا اور صحیح ہو گئی تو بے چینی اور غصہ سے گھر میں داخل ہو گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علیؓ آرام کر رہے تھے، انہوں نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات ہی یہاں سے روانہ ہو گئے تھے، یہ سکران لوگوں کا غیض و غصب اور بھی جوش میں آیا مگر اب کیا کر سکتے تھے، سردار ان قوم نے اپنی ساری پلانگ ناکام ہوتی دیکھ کر اعلان کر دیا کہ جو کوئی آپ کا پتہ لائے گا اس کو سوا نہ انعام دئے جائیں گے، لوگ انعام کی حرص میں چوڑف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں پھیل گئے۔
تین دن غارثور میں :-

کچھ لوگ جبل ثور پر بھی چڑھے، غار کے قریب پہنچے، اتنے قریب کہ اگر وہ قدموں کی طرف دیکھ لیتے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبرؓ نظر آ جاتے مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالتا نہیا، کسی نے کہا کہ غار میں کوئی داخل ہوتا تو یہ مکڑی کا جالاٹوٹ گیا ہوتا چلو دوسرا طرف چلو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی نصرت سے انہیں آپ تک پہنچنے سے روک لیا، اس وقت ابو بکرؓ گھبرا گئے تھے اور رسول اللہ کی سلامتی کو خطرہ محسوس کرنے لگے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اطمینان سے حضرت ابو بکرؓ کو خاموش کیا اور فرمایا: ہم وہ دو ہیں جن کا تیسرا خود اللہ تعالیٰ ہے، فکر نہ کرو۔ آپ نے اس غار میں تین دن قیام فرمایا، عبد اللہ بن ابو بکرؓ دن بھر مکہ میں پھرتے کہہ والوں کی باتیں انجان بن کر سنتے رہتے، شام کو وہ ساری خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آتے۔ عامر بن فہیرہ وہیں قریب میں بکرایاں پڑاتے رہتے، رات دیر گئے دودھ پلا آتے۔ اسی

طرح تین روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیقؓ اسی غار میں مقیم رہے۔
سفر ہجرت کا آغاز:-

چوتھے روز کراچیہ کا رہبہ دونوں اونٹیوں کو لے کر عامر بن فہیرہ کے ساتھ غار ثور پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکرؓ ان کے غلام عامر بن فہیرہ اور گائیڈ عبد اللہ بن اُریقط کو لیکر مدینہ منورہ کے ارادہ سے چل پڑے، آپ نے سیکوریٹی کی مصلحت سے معمول کا راستہ چھوڑ کے غیر معروف راستہ اختیار فرمایا جو سمندر کے کنارے کنارے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک جاتا تھا، یہ نبوت کا تیرھواں سال، صفر کی ستائیسویں تاریخ اور جمعرات کا دن تھا۔

پھر نے سایہ فراہم کیا:-

چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے جگے ہوئے اور صبح سے تھکے ہوئے تھے، اس لئے صدیقؓ اکابرؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کروانے کے لئے کوئی سایہ اور مناسب جگہ تلاش کر رہے تھے مگر لقوق صحراء میں دو پھر کے وقت کہاں سایہ میں سکلتا تھا؟ حضرت ابو بکرؓ اسی فکر اور بے چینی میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک پتھر نمودار ہو کر بلند ہوتا چلا گیا، سورج اس کی اوٹ میں چھپ گیا دوسرا جانب گھنا سایہ ہو گیا، حضرت ابو بکرؓ نے اس جگہ کی زمین کو اپنے دونوں ہاتھوں سے برابر کر کے لینٹے کے قابل بنادیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: آپ سو جائیں میں غرفانی کرتا رہوں گا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام واطمینان سے سو گئے۔ آپ چرواہا بھی اپنی بکریاں لے کر اس طرف نکل آیا تھا، صدیقؓ اکابرؓ نے اس سے دودھ خرید کر چڑے کے ایک پیالہ میں رکھ لیا، بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پیش کیا، آپ نے نوش فرمایا تو ابو بکرؓ خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔

دشمن محافظ بن گیا:-

اگلے روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق صدیقؓ اکابرؓ، ان کے غلام عامر بن فہیرہؓ،

اور راہبر کے ساتھ ساحل سمندر کے سحر میں سفر فرم رہے تھے اچانک سرaque بن جحش نامی شخص انعام کی لائج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگی، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ادھر اس کا گھوڑا زمین میں ڈھنس گیا اور وہ گر پڑا، پھر اس کے فریاد کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان کی پناہ لے کر نہ صرف یہ کہ واپس لوٹ گیا بلکہ راستہ سے ہر آنے والے کو یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ وہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ آیا ہے اب اس طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس طرح آپ کے مجذہ سے جان کا دشمن جان کا محافظ بن گیا۔

دنیا کا طلب گار آخرت کا طلب گار ہو گیا:-

اسی اثناء میں بریدہ اسلیٰ ۔۔۔ جو کہ انہیں سوانحوں کی لائج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور گرفتاری کے ارادہ سے گھوم رہے تھے ۔۔۔ آپ نے انہیں دین اسلام کے بارے میں سمجھایا، آپ کی گفتگو سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے سترا تھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اپنی پیڑی کا جھنڈا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مستانہ وارچل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان کرتے جا رہے تھے کہ لوگو! خوش ہوجاؤ، سلطانِ عدل و انصاف اور بادشاہِ امن و اماں تشریف لارہے ہیں، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔

سو کھے تھنوں میں دودھ جاری ہوا:-

راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک پیاس کو دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ بے چین تھے اچانک ایک خیر نظر آیا جو ابو معبد نامی شخص کا تھا، یہاں پہنچ کر جب ان کی بیوی ام معبد سے کچھ طلب کیا گیا تو انہوں نے بتالیا کہ گھر میں تو کھلانے کو کچھ نہیں البتہ ایک بکری ہے مگر اس میں کچھ بھی دودھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسی کولا و، جب وہ لائی گئی آپ

نے اس میں برکت کی دعا فرمائی، اسکے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ ایک بڑے پیالے میں دودھ نکال کر آپ کو پلایا گیا، پھر سب لوگوں نے پیا، یہ ماجرا دیکھ کر ابو معبد کہنے لگے اسی شخص کو لوگ بے دین کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، اس نے کہا ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ برق ہے“ پھر وہ اور ان کے گھروں لے مسلمان ہو گئے۔

اہل مدینہ کا اشتیاق زیارت:-

اہل مدینہ آپ کے مکہ مکرمہ سے نکل جانے کی اطلاع پاچکے تھے، اس لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے منتظر اور ملاقات کے متمنی تھے، ایک ایک گھر میں گویا جشن کا ماحول تھا، ہر ایک دل مشتاق اور ہر ایک آنکھ سراپا دیدار بنی ہوئی تھی، روزانہ صبح کی نماز پڑھ کر گھروں سے نکل جاتے اور آبادی سے باہر ہوئے چکر کر راستہ کو تلتے رہتے، جب سورج اچھی طرح بلند ہو جاتا اور دور دوستک انہیں کسی قافلہ کا سایہ نظر نہ آتا تو اپس اپنے گھروں کو آ جاتے، جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہوئے چکے اس روز بھی لوگ انتظار کر کے واپس ہو چکے تھے، ان کے واپس ہونے کے بعد آپ کا یہ مبارک قافلہ ہیو نچا، سب سے پہلے ایک یہودی کی نظر پڑی جو اہل مدینہ کی بے چینی اور بے تابی کا روز مشاہدہ کر رہا تھا، جیسے ہی اس نے آپ کے قافلہ کو قریب آتا ہوا دیکھا ایک شیلے پر سے زور دار آواز لگائی ”اے لوگو! تمہارا مطلوب اور محبوب آگیا“ یہ سنتے ہی سب لوگ مارے خوشی کے دوڑے دوڑے اور تکبیر، تہلیل پڑھتے ہوئے آپ کے پاس جمع ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنے بڑوں کی خوشی و مسرت سے متاثر ہو کر گتھتیں گاتی ہوئی نکل پڑیں۔ (۶۰) یہ ۱۲ اربیع الاول دوشنبہ کا دن اور دوپھر کا وقت تھا۔

قبا میں ورود مسعود:-

مدینہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”بنی عمر بن عوف“ کے محلہ ”قبا“ میں

رونق افروز ہوئے، یہ محلہ آبادی کے کنارے پر تھا، بیہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتا قان و دیدار کو ملاقات کا موقعہ عطا فرمایا اور بیہاں ایک مسجد تعمیر کروائی، یہیں حضرت علیؓ بھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدد میں ٹھیک رے ہوئے تھے۔ تین یوم کے بعد پہنچ گئے۔ قبا کی اس بستی میں چودہ دن قیام فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی میں داخل ہونے کیلئے آگے بڑھے ابھی ”بنو سلیم“ کی بستی تک پہنچنے ہی پائے تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نماز جمعہ کا اہتمام فرمایا اور تقریباً سو مسلمانوں کی معيت میں اسلام کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ (۱)

پہلا خطبہ جمعہ :-

اسلام کا یہ پہلا خطبہ جمعہ ہر اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و شنا کے بعد ایمان کی بنیادی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے بے ایمانوں سے اپنی بیزاری و برآت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ”جہل و مگرا ہی کے گھنے اندر ہیروں میں خدائے بے نیاز نے اپنے بندوں کی ہدایت کی خاطر مجھے آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اس لئے جو خدا کی اور اس کے رسول برحق کی اتباع کرے گاؤہ کا میاب و با مراد ہو گا اور جو روگر دانی کرے گاؤہ ناکام و نامراد ہو گا“ اسی طرح اپنے اس طویل خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق مع اللہ، تقویٰ اللہ، فکر آخرت اور اپنے اعمال میں رضاۓ الہی کی نیت رکھنے کی بار بار تاکید فرمائی۔ (۲)

(۲۰) ان کے گیت مشہور ہیں، طلوع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشکر علينا مادعا لله داع ایها المبعوث فینا جنت بالامر المطاع ، یعنی رخصتی کے ٹیلوں سے چودھویں کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، ہم پر اس نعمت کا شکر لازم ہے جب تک کہ اللہ سے کوئی دعا کرنے والا باقی ہے، اے ہم میں بھیج جانے والے نبی! آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں کہ جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ سبحان اللہ! اس زمانے کے نہاد عشاق رسول کو جو میلاد انہی کی خوشی ظاہر کرنے کیلئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں حتیٰ کہ غیروں کی نقل سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں مدینہ کے سچے عاشقوں اور ان کی مخصوص بچیوں سے سبق لینا چاہیے کہ آپ کی تشریف آوری پر

مدینہ میں تشریف آوری :-

نماز جمعہ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی بستی میں اس آن بان اور ایسی شان سے داخل ہوئے کہ پیشواؤں کی تاریخ میں محبوبیت و مقبولیت کی ایسی کوئی نظیر ملنی مشکل ہے۔ (۲۳) مدینے کے پانچ سو شرفاً اس شمع نبوت کے گرد جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، (اللہ کے نبی آگئے، اللہ کے نبی آگئے) کے نعروں سے مست ہو کر پروانہ وار چل رہے تھے، ہر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و شکر کے لغمون سے معمور اور ہر کوچہ شاکرین دیدار و ناظرین انوار کے مجموعوں سے بھر پور تھا، مخصوص بچے شوق مسرت میں یا محمد! یا رسول اللہ! یا محمد! یا رسول اللہ! کے گن گار ہے تھے، بستیوں کی بستیاں سراپا چشم بن کرامہ آرہی تھیں، ہر شخص اس کا آرزو و مند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنیں، ہر فرد یہ خواہش لئے ہوئے کہ اس کے گھر کو اپنے نزول سے رونق بخشیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے تباہی فرماتے جاتے کہ میری اوثقی خدا کی طرف سے مامور ہے اس لئے جہاں یہ رکے گی وہی جگہ میرا مسکن ہوگی، بالآخر اوثقی اس جگہ جا کے رکی جہاں اب مسجد بنوی گا منبر ہے، سامنے حضرت ابوالیوب انصاریؓ کا مکان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا، یہ دو منزلہ مکان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے جانے والوں کی سہولت کے مد نظر بچے کا حصہ پسند فرمایا اور گھر والوں کو اوپر رہنے کی ہدایت دی۔

نیکی ضائع نہیں ہوتی :-

اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پر چکر ابوالیوب انصاریؓ کے جہاں ان کے قلوب جذبات مسرت سے سرشار اور ان کی زبانیں اظہار مسرت کیلئے بے قرار تھیں وہیں ان کے گیتوں کے الفاظ نعمت کی صحیح قدر دافنی اور امداد اعانت و فرمانبرداری کے حقوق کی یادو دہانی بھی کر رہے تھے۔

(۲۱) نماز جمعہ کا قیام اگرچہ مدینہ میں اس سے قبل ہی حضرت ابو امامہؓ کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے ہو گیا تھا، لیکن اس کو پہلا جمعہ اس وجہ کیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پہلی وفعہ ہوا ہے۔ (ابن ہشام: ۵۷)

(۲۲) یہ اسلام کا پہلا جمحہ تھا اور مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ! اس خطبے کو بڑی کتابوں میں تفصیل سے پڑھنے کا اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تیرہ سال سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں مکہ والوں سے

نہیں، اپنے ہی مکان میں فروش ہوئے تھے تو بے جانہ ہوگا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کافی عرصہ قبل یمن کے ایک بادشاہ تھے سفر کے دوران مدینہ کے قریب سے گذرنا اور یہاں پڑاؤ ڈالا تھا، اسکے ہمراہ بہت سے علماء بھی تھے، ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کی نشانیوں سے پچان کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ سر زمین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجیرت گاہ ہے، بادشاہ نے تفصیل معلوم کی اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا ایسا تاثر پیدا ہوا کہ اس نے یہاں قیام کر کے ایک شاندار و منزولہ مکان تعمیر کروایا، اور ایک تحریر لکھا وی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان لانے اور زندہ رہنے کی صورت میں آپ کی مدد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور گذراش کی کہ یہ مکان جو میں نے آپ کے لئے تعمیر کروایا ہے وہ آپ اپنی رہائش کے لئے قبول فرمائیں، پھر اس تحریر کو چھڑے کی ایک ٹکلی میں محفوظ کر کے مدینہ کے ایک شریف اور بزرگ آدمی کے حوالہ کر دی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور تک اپنی امانت میں رکھیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آجائیں تو ان کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکان جس میں آپ اللہ کے حکم سے فروش ہوئے وہی مکان تھا اور حضرت ابوالیوب انصاریؓ انہی بزرگ کی اولاد تھے۔

یثرب کے بجائے طیبہ یا مدینہ:-

یثرب کے معنی سنگلاخ اور شوریدہ جگہ کے آتے ہیں، یہاں کا موسم سخت تھا، کئی صحابہؓ یہاں آ کر بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ اکثر صحابہؓ کرامؓ کمزوری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت حال دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے اس شہر میں برکت اور آب و ہوا مسلسل تکیفیں اٹھانے ہر طرح کی ڈھنی، جسمانی فہمی اذیتیں سہتے رہنے کے باوجود اپنے چاہنے والوں کی اس سختی اور جان شاروں کے اس مجمع میں ایک حرف بھی دشمنوں کے شکوہ و شکایات کا آپ کی زبان مبارک پر نہ آیا، اللہ اکبر! کیا ضبط اور حلم تھا ہمارے رسول کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۲۳) عروہ بن یوسف ثقیل جو صلح حدیبیہ کے دن قریش کے سفارت کا رتھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ صحابہؓ کرامؓ کے عاشقانہ اور والہانہ تعلق کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے کہ میں نے قیصر و کسری اور بجا شی

میں خوشنگواری اور مسلمانوں کے قلوب میں بیہاں قیام کی تمنا پیدا ہونے کی دعا فرمائی، جو مقبول ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یثرب کا نام تبدیل کر دینے کی صلاح دی، اصحاب کرام نے کوئی اور نام تجویز کرنے کے بجائے اپنے آقا کے نام سے موسم کر کے یثرب کو ”مَدِيْنَةُ الرَّسُول“ کہنا شروع کر دیا، جو آگے چل کر صرف ”مَدِيْنَة“ رہ گیا مَدِيْنَةُ الرَّسُول کے معنی ہیں رسول کا شہر، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بستی کا نام ”طَبِيْه“ رکھا۔

علماء یہود کی حاضری:-

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ سے ملاقات کیلئے وقت فو قتا کئی یہودی علماء حاضرِ خدمت ہوئے، کیونکہ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو آسمانی کتابوں میں بتلائی ہوئی علامات کی روشنی میں بہت اچھی طرح جانتے تھے، کئی ایک نشانیوں کا ان کو علم تھا، انہوں نے چاہا کہ براہ راست ملاقات کر کے معلوم کرنا چاہئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت میں ان نشانیوں سے آخر تکنی مطابقت ہے، جو آتا ملاقات کے بعد مطمئن ہو جاتا مگر ان میں سے بعض لوگ مشرف بہ اسلام ہوتے اور جنکی قسمت میں محروم تھی وہ سب کچھ جان کر بھی محروم رہتے۔

ان علماء میں یاسر ابن الخطب، مدینہ کے ایک یہودی مدرسہ کے علماء، عبد اللہ ابن سلام، ابن صوریا، زید بن سعید، سلمان بن اسلام، اور میمون بن یامین وغیرہ قابل ذکر ہیں
یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں:-

یاسر بن الخطب، حجتی ابن الخطب کا بھائی تھا، اپنے مذہب کا اچھا عالم تھا، سب جیسے باادشا ہوں کو ان کے ملکوں میں دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم! میں نے کسی باادشا کی عظمت و محبت اس کی قوم میں ایسی نہیں دیکھی جیسی کہ محمد کے اصحاب میں محمد کی عظمت و محبت دیکھی ہے، وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کے اصحاب بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کا کوئی بال بھی گرجاتا ہے تو جلدی سے اٹھا کر اپنے پاس حفظ کر لیتے ہیں وغیرہ (ابن خثام ۱۹۷/۲)

سے پہلے یہی شخص آپ کی خدمت میں آیا، آپ کی باتیں سن کر متاثر ہوا اور اپنی قوم کو جا کر سمجھایا، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ ایک اور یہودی عالم آپ کی خدمت میں آئے تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت فرمائے تھے، قرآن کریم سن کر بہت متاثر ہوئے اور اپنی قوم کے متعدد لوگوں کو لا کر مشرف بہ اسلام ہو گئے، عبد اللہ بن سلام کا نام اسلام سے پہلے حسین تھا، وہ آپ کے آنے کے سختی سے منتظر تھے، جیسے ہی آپ کے آنے کی اطلاع میں فوراً خدمت میں حاضر ہوئے، چہرہ مبارک کو دیکھتے ہی ان کے ضمیر نے کہا ”یہ چہرا جھوٹا نہیں ہو سکتا“ چنانچہ اسی وقت مسلمان ہوئے، مگر آکر گھر والوں کو دعوت دی تو وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ سلمان فارسی عیسائی عالم و راہب تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، لیکن ڈھائی سو سال کی عمر پانے پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ بھی کافی لمبے عرصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ ہی کی تلاش میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے، جب آپ مدینہ تشریف لائے تو سلمان فارسی نے آپ سے ملاقات کی، آپ کو سامنے بیٹھ کر غور سے دیکھا پھر پیچھے جا کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشا سمجھ لیا اور پشتِ مبارک سے چادر ہٹالی، انہوں نے مہربوت کو دیکھ لیا اور اٹھ کر اسے بو سہ دیا اور اپنی پوری داستان زندگی سنا کر مسلمان ہو گئے۔

یہودیوں کا حسد اور تعصب:-

عبد اللہ بن سلام یہود کے جید علماء میں سے تھے، اور میمون بن یامین قوم کے نہایت ہی معتبر آدمی تھے، ان لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہودیوں سے ہمارے مسلمان ہونے کو ظاہر کئے بغیر ہمارے بارے میں رائے لیجئے، جب وہ لوگ ہم پر اعتماد کریں گے تو ہم اسلام ظاہر کریں گے تاکہ ان پر بحث ہو جائے۔

☆ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سلام کو چھپا کر ان کی قوم سے پوچھا کہ تم ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ وہ ”شریف آدمی ہیں، ان کے باپ بھی شریف

تھے اور وہ زبردست عالم ہیں” یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن سلام باہر نکل آئے اور گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہودی غصے میں آگئے اور کہنے لگے کہ ”یہ بھی ذلیل آدمی ہے اس کا بابا پ بھی ذلیل تھا۔“ ☆ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا: تم اپنے میں سے کسی ایسے باعتماد آدمی کا نام لو کہ اگر وہ میری نبوت کی تصدیق کرے تو تم یقین کر سکو، انہوں کہا: میمون بن یامین پر ہم کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر وہ کہدیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم تصدیق کر لیں، آپ نے انہیں طلب کیا اور انہوں نے سب کے سامنے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہودی ایمان نہیں لائے۔ غرض! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہودی علماء و عوام باقاعدہ طور پر آکر ملتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود علماء مت نبوت دیکھتے رہے مگر چند خوش نصیبوں کے علاوہ سب ہی نے ضد اور تعصب کا ثبوت دیا۔ من يضل الله فلا هادى له

مسجد نبوی کی تعمیر:-

حضرت ابوالیوب الانصاریؓ کے مکان سیقریب میں جگہ تھی، آپ نے مسجد کیلئے اس کے خریدنے کی خواہش ظاہر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکرؓ نے قیمت ادا کر کے اس جگہ کو حاصل کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسجد نبویؓ کی تعمیر شروع فرمادی، یہ مسجد مٹی کی دیواروں اور کھجور کے چھپروں اور ستونوں پر مشتمل تھی، صحابہ کرامؓ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بارہ دن میں تیار ہوئی۔ مسجد کا کام مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے متصل ازواج مطہرات کیلئے بقدر ضرورت کمرے بنوادیئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوالیوبؓ کے مکان سے ان حجرات میں منتقل ہو گئے، حضرت زیدؓ اور حضرت عبد اللہ بن ابی بکر کو بھیج کر مکہ سے اپنے بیوی پھوپھو بلوایا۔

شہنشاہِ عالم کا دربار:-

اسی مسجد کی چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد قائم فرمائی، یہیں سے سلاطین وقت کو دعوت نامے روانہ فرمائے، یہیں مقدمات کے فیصلے کئے، اسی میں صحابہ کرامؓ کی تربیت کی، اسی میں اسلامی تعلیم کا نظام قائم کیا، اسی میں ذکر کے حلقوں لگتے، اسی میں علم و معرفت کے درس ہوتے، اسی کے محن میں جہاد کے لشکر تیار ہوتے، یہیں سے محتاجوں کی حاجت روائی کی جاتی، اسی کے سامنے بنے ایک بے چھت کے چوبڑے پر بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ اور بے سہارا ملتا۔ غرض یہ کہ یہ مبارک مسجد ایک عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا گویا باب الحکومت بھی بن گئی تھی۔
بین قومی امن مشن:— (۲۲)

ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ میں امن و امان کی فضا قائم کرنے اور مذہبی اختلاف کے باوجود قومی اتحاد و اتفاق برقرار رکھنے کی خاطر ایک بین قومی معاهدہ امن کی جانب توجہ فرمائی، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسانی و اخلاقی خطوط پر تعاون و ہمدردی نیز اظہار رائے کی آزادی کا موقعہ فراہم ہو سکے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع اصولوں پر مشتمل ایک معاهدہ امن مرتب فرمایا، اور اس پر مدینہ میں بسنے والی قوموں سے اتفاق و رضامندی کی دستخطیں لیں، پھر اس کے اثرات کے دائرہ کو وسیع کرنے کی غرض سے بذاتِ خود اطرافِ مدینہ کے قبائل کے پاس پہنچ کر انہیں بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ یہ سلسہ سن دونوں ہجری کے وسط تک چلتا رہا، لوگوں کو بھی یہ تجویز اچھی لگی اور وہ اسے پسند کر کے اس میں شامل ہوتے رہے۔

(۲۳) یہ معاهدہ تمام احادیث کی تطبیق اور جزئیات کی تحقیق کے ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے ”مجموعۃ الوثائق السیاسیة“ میں جمع کیا ہے، جو پیاس سے زائد غفات پر مشتمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دورانیہ میں، اور حکمتِ عملی پر مبنی ہے، یہ معاهدہ اس وقت تک نافذ رہا جب تک کہ الٰہ کتاب پر جزئیہ کا حکم نہیں آیا اور مسلمان طاقت ورنہ ہو گئے۔ (نذرِ ایم / ۲۶۹)

بھائی چارگی کا رشتہ:-

اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم کام بھی انجام دیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخاة قائم فرمادی، مہاجرین اپنے عزیز واقر بمال و دولت، گھر یا رب چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے مدینہ آگئے تھے، بعض کا تو مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا تھا، ان سب لوگوں کو آباد کرنا، ان کی ضروریات زندگی کا سامان کرنا اور شخصی مسائل کا انتظام کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ ان میں جہاں کمزور اور غریب لوگ تھے وہیں صاحب حیثیت اور شریف لوگ بھی تھے، ان کو پناہ گزینوں کی طرح کیمپوں میں بھی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کے قلب مبارک میں ایسی تدبیر الہام فرمائی کہ اس سے عمدہ تدبیر سوچی نہیں جاسکتی، آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ نام بہ نام جوڑ دیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیدیا، ان لوگوں نے نبی کی مبارک زبان سے بنائے گئے ان بھائیوں کو اپنے حقیقی بھائیوں کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر محظوظ بنا لیا۔ مہاجر صحابہؓ اگرچہ کہ انصار صحابہؓ کا بوجھ بننے سے گریز کرتے ہوئے اپنے پیغمبر خود بجانے کی کوشش کرتے تھے مگر اس حسن تدبیر سے انھیں اچھے دوست اور بہترین ہمدرد مل گئے، اپنا نیت پیدا ہوئی اور پردمیکی پن کا احساس ختم ہوا اور سب لوگ مل کر ایک مثالی اور محبت بھری زندگی گزارنے لگے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم -

مشرکین و منافقین کا تقض عہد:-

قریش کو دنیا کا امن اور مسلمانوں کا چھین بھی گوارانہ تھا، انھوں نے اس سلسلہ میں غور و خوض کر کے مدینے کے قبائل ”اویں و خزر“، کے بعض منافقت لپسند لوگوں سے ربط کیا اور انھیں تقض عہد پر اکسایا، بصورت دیگر انھیں نقصان پہنچانے اور ذلیل و خوار کرنے کی دھمکیاں دیں، ادھر یہود بے بہود سے بھی تال میں قائم کر لیا، جبکہ وہ پہلے سے بھی مسلمانوں کے حق میں آستین کا سانپ بنے ہوئے تھے۔ اس طرح کی اور بھی سازشوں کا المباچوڑا جاں

پھیلا کر امن پسند مسلمانوں کے ماحول کو بر باد کر دیا، انہی سازشوں کے تحت انہوں نے وقفہ وقفہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے بھی شروع کر دیئے۔

ضرورتِ جہاد و قتال:-

اسلام امن و سلامتی کا نام ہب ہے، اس نے امن و امان اور خلوق کی حفاظت و سلامتی کو بنیادی اہمیت دی ہے، مکہ میں مسلمانوں کا چودہ برس تک مسلسل ظلم سہیت اور صبر و ثبات کا مظاہرہ کرتے رہنا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پیو چنے کے بعد سب سے پہلے قبائل و اقوام کے درمیان صلح اور امن کا معاهدہ کرانے کی فکر فرما تا اسلام کے اس مزاج کا واضح ثبوت ہے۔ لیکن ظلم کرنا جیسے انسانیت سوز حرکت ہے انسانیت پر ظلم کو دیکھتے رہنا اور مظلوموں کی مدد کر سکنے کے باوجود نہ کرنا بھی انتہائی غیر شریفانہ عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قوت و طاقت دے تو کمزوروں اور بے قصوروں پر ظلم وزیادتی روا رکھنے والوں کا مقابلہ کر کے ان کی قوت و شوکت کو توڑنا اور انہیں عبرت ناک انجام تک پیو نچانا ہی تمام عقل مندوں کے نزد یک عدل و انصاف اور عقل و اخلاق کا لازمی تقاضہ ہے۔

ظالموں سے جہاد کا حکم:- (۶۵)

اللہ تعالیٰ نے جب تک مناسب سمجھا مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و تم پر صبر کرتے رہنے کا حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا تو جہاد و قتال کا حکم نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا: ”جن لوگوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ دشمنوں سے قتال و جہاد کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی نصرت پر قادر ہے“ یعنی اب تک صبر و استقامت کا حکم

(۶۵) جہاد ابتداءً تو جان و مال کے تحفظ کیلئے بطور دفاع کے مشروع ہوا تھا، جس کا حکم سورہ حج کی آیت: اُذن لِلّٰهِدِيْنَ يَقَا تُلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا کے ذریعہ ملا، پھر جب افتاد اسلامی پختہ ہو گیا تو شوکت اسلام اور غلبہ دین کیلئے بھی اس کا حکم بطور اقدام دیا گیا، جس کا ذکر متعدد آیات میں موجود ہے مثلا سورہ انفال کی قاتلُوْهُمْ حتّی لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّيْنُ لِلّٰهِ وَالِّيْ آیَت۔ جہاد کے مسئلہ میں اچھے خاصے پڑھے لکھ مسلمان بھی خلف شہباد رکھتے ہیں، اس مسئلہ کو تفصیل سے سمجھنے کے لئے مولانا اوریں کا نڈھلوی رحمة اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب ”سیرۃ امصطفیٰ“ کی دوسری جلد میں ”جہاد فی سبیل اللہ“ کا عنوان مکمل ملاحظہ کرنا بہت مفید ہے۔

کسی کمزوری اور مجبوری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ کافروں کو سنچلنے کی مہلت دینے اور ہدایت کا موقع فراہم کرنے کے لئے تھا۔

یہی وجہ ہے کہ جہاد میں دیگر عبادات کی طرح نیت کی صحت لازمی ہے کہ یہ عمل کسی نفسانی، سماجی، مالی، اور علاقائی اغراض میں سے کسی بھی غرض کیلئے نہ ہو خالصۃ لوجه اللہ ہو اور اسکے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جہاد کی مختلف نیتوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان میں سے کوئی نیت صحیح ہے؟ تو آپ نے ایک ضابطہ پہلادیا ”جس شخص نے اس غرض سے جہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو بس وہی حجا ہدہ ہے“ یعنی شوکتِ اسلام اور غلبہِ دین کے علاوہ کوئی اور نیت جہاد میں معتر نہیں، کسی اور غرض سے کیا گیا فی الحال جہادِ اسلامی نہیں۔

غزوات و سرایا:-

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا جہاد ایک ضرورت ہے، اور اس کے بغیر امن ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض لوگوں کو دفع نہ فرمائے تو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی مشکل ہو جاتی، بلکہ ظالم لوگ عبادت خانوں کو جوڑ کر اللہ کے مراکز ہیں منہدم کر دیتے“۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ”اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعہ بعض لوگوں کو قابو میں نہ کرتا تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جاتی“۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو بے شک مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بہت ستایا گیا، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہ عداوت و مخالفت سہ رُخی ہو گئی اور مزید بڑھ گئی، دو شمن مذینے ہی میں تھے، ایک یہود، دوسرے متفقین، تیسرا شمن مکہ والے جو وقفہ و قفة سے مدینہ آ کر چھیڑ پھاڑ کرتے جا رہے تھے۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ اور مظلومانہ صور تحال تھی اسی کے منظار اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں سے وقت و طاقت کے ساتھ مقابله کا حکم نازل فرمایا۔

اس حکم کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے ساتھ باقاعدہ

جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کو اسلامی اصطلاح میں ”جہاد و قتال“ کہا جاتا ہے، اسی طرح جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اس کو سیرت نگاروں کی اصطلاح میں ”غزوہ“ کہتے ہیں اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے اس کو ”سریہ“ کہتے ہیں، غزوات کی کل تعداد بقول ابن اثیر ۲۷ ہے، ان میں بھی لڑائی کی نوبت صرف ۹ غزوات میں آئی ہے۔ ان میں پدر، احد، خبیر، حنین، خندق، اور تبوک وغیرہ مشہور غزوات ہیں۔ جنگ بد رتو اللہ تعالیٰ نے باطل کے مقابلہ میں حق کی فتح کا زبردست نشان بنا دیا تھا۔

تین سوتیرہ ایک ہزار پر غالب ہوئے:-

مدینہ منورہ مکہ سے ملک شام جانے والوں کے راستہ میں پڑتا تھا، جب مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ سیرت اور امن پسند اصحاب کرام کو وطن چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جا کر بھی چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، خود بھی حملے کر رہے تھے اور مدینہ والوں کو بھی بھٹکا رہے تھے تو مکہ والوں کو سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا، اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر سب سے بلکی اور مناسب سمجھی کہ مکہ والوں کے قافلہ کا راستہ روما جائے، اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے قافلہ تجارت کو روکنے کا ارادہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابوسفیان مکہ والوں کا ذہیر سارا مال لے کر ملک شام سے اسلحہ خرید کر لارہے ہیں، جتنی حکمت عملی کے تحت اس قافلہ کو روک کر نہتا کر دینا بڑے خطرہ کے ملنے کا سبب تھا، مگر ابوسفیان بھی بڑے زیر ک اور چوکنا آدمی تھے، آپ کے عزم اور منصوبوں کی خبر کہتے ہوئے سفر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی خاص تیاری کے بس چند مخصوص اصحاب کو لے کر ان کے راستہ میں پہنچ گئے مگر وہ صورت حال کی بھنک پا کر اور اپنا راستہ بدل کر نچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر مکہ میں آدمی بھیج کر خبر کروادی کہ تمہارا مال و متاع اور قافلہ خطرہ میں ہے، ابو جہل غضبناک ہو گیا اور پورے مکہ کو ہلاکر رکھ دیا، مکے کے تمام سردار نوجوان بہادر جنگجو سب ہی جنگ کے لئے تیار ہو گئے، اس باب سفر بھی لوگوں نے

دل کھول کر جمع کیا، بہر حال بڑے کروفر اور زور و شور سے قریب ایک ہزار کفار مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، اور مدینے کے قریب بدر کے مقام پر آ کے رُک گئے، آپ نے تین سوتیرہ نہتہ افراد سے — جن کے پاس نہ ہتھیار تھا نہ سوار یاں تھیں — مشورہ کیا کہ کیا کیا جانا چاہئے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یقین کامل تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی رائے لینا مناسب سمجھا، یا ان کے جذبات کا جائزہ لینا مقصود تھا، ان لوگوں نے کہا: جو حکم فرمانا ہے فرمائے، ہم آپ کا اگر حکم ہو جائے تو آگ کے سمندر میں کو دجانے کے لئے بھی تیار ہیں، ہم موسیٰؑ کی قوم نہیں کہ پیغمبر سے کہنے لگیں "آپ اور آپ کے پردوگار جا کے لڑو، ہم میں بیٹھے رہیں گے" اس جواب سے آپ بہت خوش ہوئے اور اس چھوٹی سی جماعت ہی کو لے کر بدر پر چوچ گئے، دشمن کی شوکت و قوت حیران گئی اور خوفناک تھی، مسلمانوں کا حال قبل رحم تھا، آپ صفیں درست کرنے کے بعد رجوع الی اللہ ہو گئے اور اس قدر تضرع و ابتہال سے دعا میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی مکہ بھیج کر لشکر اسلام کی ایسی مدد فرمائی کہ کافروں میں سے ستر سردار مارے گئے جو چھوٹی کے لوگ مانے جاتے تھے، بقیہ نے بھاگ نکلنے میں عافیت محسوس کی، مسلمان فاتح و منصور والپس آئے۔ اس جنگ نے کافروں کے قلوب پر مسلمانوں کی رضاک تو بھاہی دی، ادھر گھر کے چراغ یہودی اور آسٹین کے ساتھ منافقین کے بھی دماغ ٹھکانے اور دل وہڑ کئے گے۔

فللہ الحجۃ البالغہ بقیہ غزوات کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھئے۔

سفر عمرہ:-

غزوہ کا یہ سلسلہ سن چھ بھری تک چلتا رہا، ذی قعده سچھ بھری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اس خواب کو سُن کر صحابہ کرامؓ کے دلوں میں عمرہ کی آزو بھڑک اٹھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کا ارادہ کر لینے کی درخواست کی، آپ نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور تقریباً دیرہ ہزار مسلمانوں کے ساتھ

مدینہ منورہ سے مکہ المکرّہ کی طرف روانہ ہو گئے، ادھر مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اطلاع ملی تو انہوں نے اطراف و اکناف کے تمام قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے اور مکہ میں داخل ہونے سے روکنے پر آمادہ کر لیا اور مکہ کے باہر ان کی فوجیں اکٹھی کر لیں، ان کی اس سازش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے راستے سے ہٹ کر ایک اور مقام پر پڑا وڈا دیا، اور فرمایا کہ آج میں قریش سے ہر ایسی مصالحت کرنے تیار ہوں جس میں صلح رحمی ہو۔

بیعتِ رضوان:-

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانؓ کو مکہ والوں سے اس سلسلہ میں بات چیت کرنے کیلئے روانہ فرمایا، مکہ والوں نے ان کا اکرام کیا اور ان کو طوافِ کعبہ کی اجازت بلکہ پیش کش کیا، انہوں نے فرمایا: خدا کی فسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عثمان طواف نہیں کر سکتا، اسی اثناء میں یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمانؓ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے، نبی ظاہر ہے کہ کسی کے سفیر اور اپنی کو قتل کرنا دنیا کے تمام قوانین میں سخت جرم سمجھا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہؓ عثمان کا بدله لینے کے لئے میرے ہاتھ پر بیعت کریں، صحابہؓ کرامؓ بڑے جوش و خروش اور جذبہ اطاعت سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے جمع ہو گئے، حضرت عثمانؓ کی یہ کیسی خوش نسبیتی ہے کہ ان کے غیاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سے کپڑا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس وقت آپ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ صحابہؓ کرامؓ کے اس جذبہ اطاعت سے بہت خوش ہوئے اور قرآن کریم میں ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا، اسی وجہ سے اس بیعت کو ”بیعت الرضوان“ کہتے ہیں۔ (۲۱) بعد میں حضرت عثمانؓ کے قتل کی یہ بخبر غلط ثابت ہوئی۔ اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔

صلح حدیبیہ:-

اس کے بعد قریش کے نمائندے بات کرنے کے لئے ایک ایک کر کے آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے بھی کہا کہ ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے، ہم بلا کسی تکرار کے عمرہ کریں گے اور واپس لوٹ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہی نہ تھی، ان کا ایک ہی اصرار تھا کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی ہو جائیں، ہم کسی قیمت پر بھی مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔

بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے پیش کردہ شرائط پر صلح کر لی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تو مسلمان واپس لوٹ جائیں، لیکن اگلے سال آکر عمرہ کر لیں، ایک شرط یہ بھی تھی کہ دس سال تک آپس میں جنگ بندی رہے گی، اسی طرح اور بھی شرائط تھیں اور اکثر طرفہ اور ظالمانہ تھیں۔ بہر حال صلح نامہ لکھا گیا، دونوں جانب کے متعدد افراد نے اس پر دستخط کی، یہ معاہدہ اگر چہ دیکھنے میں مغلوبیت کے ساتھ کیا گیا تھا لیکن اس کے ذریعہ جو "فتح میں" حاصل ہونے والی تھی وہ درحقیقت تمام غزوات سے زیادہ نتیجہ خیز و مقصداً غیر تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور یقین تھا، سورۃ الفتح کی ابتدائی آیات نازل ہونے پر ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ "کیا یہی فتح ہے؟" آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اسی کا نام فتح ہے۔

قربانی، حلق اور واپسی:-

معاہدہ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام[ؐ] کو سرمنڈا نے اور قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن حضرات صحابہ کرام[ؐ] (ان مصالح سے علمی کی بناء جنہیں آپ منجانب اللہ

(۲۶) وہ آیت سورۃ الفتح کی انحرافیں آیت ہے، ارشاد ربانی ہوا: "بے شک اللہ تعالیٰ ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سے راضی اور خوش ہو گیا، وہ ان کے صدق و اخلاص کو جانتا ہے، اس نے ان مومنین پر اپنی خاص رحمت اتاری اور انہیں فتح میں کافا نہ کے عطا فرمایا جو عقریب ہونے والی ہے" (سورۃ الفتح: ۱۸)

جان گئے تھے) اس معاہدہ سے بہت معموم اور نجیدہ تھے، اسی حزن و ملال کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل میں کچھ تاخیر کی، اشارہ چشم پر جان چھاوار کرنیوالے عاشقوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل گیر ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہؓ کے سامنے اس کا ذکر کیا، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ! پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کردیجئے اور سرمنڈوا لیجئے پھر یہ لوگ ضرور اطاعت کریں گے، یہ لوگ نافرمان نہیں ہیں بلکہ اس فیصلے پر نظر ٹانی کے امیدوار ہوں گے، جب آپ اپنی قربانی ادا کر دیں گے تو انکی توقع ختم ہو جائیگی، اور وہ سب آپ کا اتباع کریں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنا جانور ذبح فرمادیا، صحابہ کرامؓ اٹھے اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے اپنے جانور قربان کرنا شروع کر دئے۔ (۶۷)

سلاطین وقت کو دعوتِ اسلام:-

احرام کے مطالبات پورے کرنے کے بعد یہیں سے مدینہ منورہ کیلئے واپسی عمل میں آگئی، واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے و شمناں اسلام اور علاقائی مسائل کی طرف متوجہ رہے، اسی اشنا میں غزوہ نہیں بھی پیش آیا، انہی دنوں رو میوں کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، سب سے اہم کام جو اس موقعہ امن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے سراجِ حرام دیا وہ وقت کے بادشاہوں اور حاکموں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشنا میں باقاعدہ خطوط لکھ کر صحابہ کرامؓ کے ذریعہ سلاطین وقت کے پروانہ فرمائے، روم، ایران، مصر، بحرین، جبشہ، دمشق، یمامہ کے فمارا وؤں کے علاوہ اور بھی ملکوں کے بادشاہوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، جنمیں نام پہنام آپ نے اسلام کی طرف بلا یا اور مانند نہ مانتے کے

(۶۷) اصل میں صحابہ کرامؓ کے دل بھجے ہوئے تھے وہ چاہتے تھے کہ شرکیں مکہ سے مقابلہ کر کے اسی وقت اللہ کے نبی کو حرم میں داخل کریں اور مغلوب ہو کر واپس نہ جائیں، آخر وقت تک اس کی اجازت مل جانے کے امیدوار رہے، لیکن جب آپ نے عملی اپنا احرام ختم کر دیا تو یقین ہو گیا کہ اب یہ فیصلہ بدلنے والا انہیں اسلئے انہوں نے فوراً قربانی کر کے اور سرمنڈوا کے احرام کھول لیا۔ اس صورت حال کو سامنے رکھنے والا پاسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں نافرمانی کا کوئی شائیہ نہیں ہے۔

انجام سے خبردار کیا۔ ان میں سے بعض بادشاہوں نے اس مبارک دعوت کو قبول کر لیا، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں کا اکرام کیا اور عزت دی لیکن مسلمان نہیں ہوئے اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ اور اس کے لانے والوں کی بے عزتی کی اور غرور و استکبار کا معاملہ کیا۔ مثلاً

☆ روم کے بادشاہ قیصر کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملاؤ انسے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا، اور اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کی حکومت روم تک پھیل جائیگی، وہ سچ نبی ہیں، مجھے ان کے بارے میں اندازہ تھا مگر نہیں سمجھتا تھا کہ عرب میں ہوں گے، اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے پیروجیوں کو سعادت سمجھتا، یہ سب کچھ کہا مگر ایمان نہیں لایا۔

☆ ایران کے بادشاہ کسریٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے غصے میں اسے پھاڑ ڈالا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حرکت کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حکومت بھی اسی طرح تکڑے تکڑے ہو جائے گی، چنانچہ جلد ہی اس کی حکومت تباہ ہو گئی۔

☆ یمن کے بادشاہ نے آپ کا خط پڑھ کر اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حکومت بھی اسی طرح برقرار کی۔

☆ اسی طرح جسہ کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا وغیرہ۔

عمرۃ القضا کے لئے روائی:-

قریش سے معاهدہ تھا کہ اس سال تو بغیر عمرہ کئے واپس جائیں گے البتہ اگلے سال آکر اس کی قضا کر لیں گے، اگلے سال جب آئیں گے تو قریش تین دن کیلئے مکہ مکرمہ خالی کر دیں گے، چنانچہ جب آپ پہنچ تو حسب معاهدہ وہ لوگ ایک پھاڑ پر چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہزار سے زائد مسلمانوں کی ساتھ بڑی شان و شوکت سے اور تکبیر و تہلیل کی گونج میں عمرہ کے اعمال کرتے رہے، مشرکین نے مشہور کر دیا تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا سے متاثر

اور بخار کے شکار ہوئی وجہ سے مہاجرین بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ وہ طواف کے دوران اپنی صحت وقت کا مظاہرہ بھی کریں، چنانچہ بڑے جوش اور ولو لے سے بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کی گئی، مشرکین پہاڑ پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، صحابہ کرامؓ کی ظاہری قوت و شوکت کے ساتھ ان کے ایمان کی روحانیت اور نبی کی نورانیت نیز ذکر اللہ کی برکت کو دیکھ کر بہت معروب ہوئے اور اپنی پھیلائی ہوئی افواہوں پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔

سفر عمرہ سے واپسی:-

تین دن کے بعد مشرکین کی طرف سے ان کے نمائندہ نے آکر وعدہ یاد دلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مکہ سے نکل گئے اور واپس مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اپنے معاهدہ — صلح حدیبیہ — کی پابندی فرماتے رہے، معاهدہ کی پاسداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض تکلیف دہ حالات سے بھی گذرنا پڑا۔

مثلاً اس معاهدہ کے فوراً ہی بعد ابو بصیر نامی ایک صاحب مکہ سے مسلمان ہو کر آئے اور کسی طرح مدینہ منورہ پہنچ گئے، معاهدہ یہ طے تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آجائے تو اسے مکہ والوں کے حوالہ کر دیا جائے، قریش نے دوآدمیوں کو حسب معاهدہ انہیں واپس لانے کے لئے روانہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لئے اس پر عمل اگرچہ بہت شاق تھا کہ ایک مسلمان کو اپنے ہاتھوں دشمنوں کے سپرد کر دیا جائے مگر آپ نے معاهدہ کا احترام برقرار رکھا اور ابو بصیر کو ان کے حوالہ فرمادیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوئے، اپنے جسم کے زخموں کو دکھا کر مسلمانوں سے پناہ لینے کی خواہ نہ ظاہر کی، صحابہؓ کے دل ان کو دیکھ کر ترپ اٹھ، اس وقت نبی کے قلب مبارک کا حال کیا ہوا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دینی چاہی مگر مشکوں نے نہ مانا اور کہا کہ وعدہ وفا کرنے کا یہ پہلا موقعہ ہے، آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ابو جندل و مکہ والوں کے حوالہ کر دیا۔ اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالے گا۔ غرض ان تکلیف وہ واقعات کے باوجود مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”عہد“ کا احترام ملحوظ رکھا، اس معاهدہ کی رو سے چونکہ دس سال تک مکہ والوں سے تو کوئی مقابلہ نہ تھا، اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ دیگر علاقوں اور دوسرے دشمنوں سے نہیں کی طرف مبذول رکھے رہے، اس عرصے میں مشرکین کی بعض اہم شخصیتوں کو اسلام کے سمجھنے کی توفیق ملی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ غرض! یہ معاهدہ بظاہر شکست تھا مگر فی الحقیقت فتح اور فتح مبین کا پیش خیمه تھا۔

قریش کی عہد شکنی:-

صلح حدیبیہ میں ایک معاهدہ بھی ہوا تھا کہ دس سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائیگی، نیز قبائل عرب میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور جو قریش کے ساتھ مل جانا چاہے تو اُسے اختیار ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اس گنجائش کے مطابق قبائل عرب میں سے ”بنی خزانہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہوئے اور ”بنی بکر“ قریش کے ساتھ مل گئے، کچھ دنوں کے بعد ”بنو بکر“ نے قریش کی مدد سے معاهدہ کی اس دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی پُرانے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لئے ”بنو خزانہ“ پر حملہ کر دیا، وہ لوگ بچاؤ کے لئے حرم میں داخل ہوئے تو قریش نے وہاں بھی انھیں نہیں چھوڑا، بنو خزانہ کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاهدہ تھا اسلئے ان لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس ظلم و جری کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قریش کے پاس بھیجا کہ تم لوگوں نے معاهدہ کی خلاف ورزی کی ہے، اور ہمارے حليف قبیلہ والوں پر ظلم کر کے ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اب یا تو ان مقتولوں کی دیت یعنی جان کا فدیہ ادا کرو یا پھر ہمارے ساتھ لڑائی کیلئے تیار ہو جاؤ، قریش نے دیت ادا کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کیلئے آمادہ ہو گئے۔

قریش پر فوج کشی:-

چونکہ عہد شکنی کی ابتداء قریش نے کی، اور اس کی وجہ سے جنگ بندی کا معاهدہ خود بخود ختم ہو گیا اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علیف قبیلہ پر ظلم کا انتقام لینے اور ان کی جائز مدد کرنے کے لئے قریش پر فوج کشی کا صحابہ کرام کو حکم دے دیا۔ ادھر ابوسفیان نے دیکھا کہ معاملہ چیچیدہ ہو گیا ہے اور غلطی ہمارے فریق کی ہے۔۔۔ کہ ایک تو عہد شکنی کی، دوسرے غلطی تسلیم کر کے مقتولوں کا خون بہا ادا کرنے کے بجائے اُلٹے لڑائی کے لئے تیار ہو گئے۔۔۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پر فتح کرتے تھے معاہدہ کی درخواست کی، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجدید کو نامناسب سمجھتے ہوئے اپنے حکم کو برقرار رکھا اور صحابہ کرام کو سفر کی تیاری جاری رکھنے کی ہدایت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیار ہو گئے اور ۲۰ رمضان سن آٹھ بھری کو مسلمانوں کے ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہو گئے، یہ دس ہزار مجاہدین اسلام کا لشکر جراحتا۔

مکہ مکرمہ فتح ہو گیا:-

قریش مسلمانوں کے لشکر اور اس کی شان و شوکت کی تاب نہ لاسکے مقابلہ کی جرأت نہ ہونے کی وجہ سے پسپا ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا اور ۲۰ رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فتحانہ مگر عازمہ داخل ہوئے۔ اس عظیم الشان فتح کے وقت طبعی سرت و خوشی اپنی جگہ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کعبۃ اللہ کے احترام کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردان جھکی جا رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹی کے کجاوے سے ٹکر رہی تھی، اور سر و روانہ ساط کے موڑ میں بڑی خوش الحانی سے سورۃ الفتح کی تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ اس موقعہ پر ظالموں اور دشمنوں کو جس فراغدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور جس خلق کریم کا مظاہرہ فرمایا اس کی مثال تاریخ عالم نہ ماضی میں پیش کی ہے نہ آئندہ پیش کر سکتی ہے۔

ہر ایک کیلئے معافی:-

حدیہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ ان کی بدترین دشمنی اور ایذا رسانی کی وجہ سے معاف کرنا نہیں چاہتے تھے مثلاً ”ہمار بن الاسود“ جس نے حضرت زینب بنت رسول اللہ کو بھرت سے روکا تھا، اور آپ کے پیٹ پر برچھی ماری تھی، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر غلطی تسلیم کرنے اور معافی چاہئے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرمادیا اور ان کے اسلام کو قبول فرمایا۔ اسی طرح عکرمہ بن ابی جہل جو پہلے اپنے باپ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، ان کو بھی معاف کر کے ان کا اسلام قبول فرمایا۔ اسی طرح ابوسفیان بن حرب اور ابوسفیان بن حارث کو معاف کر دیا، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ابوہب کے بیٹے عقبہ اور عتبیہ کو جنہوں نے اپنے باپ کے حکم سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیدیا تھا ڈھونڈ کے بلا یا اور سمجھا کہ مسلمان بنایا اور فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اللہ سے مانگا تھا۔ وغیرہ

معافی ہی نہیں احسان بھی:-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند واجب القتل افراد کے علاوہ (۲۸) تمام مشرکین کیلئے نہ صرف معافی کا اعلان فرمادیا بلکہ بعضوں پر تو مزید احسانات بھی فرمائے، مثلاً حضرت ابوسفیان بن حرب باوجود یہ کہ وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، مگر انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ حاصل کی تو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دی بلکہ ان کے گھر میں داخل ہو جانے والے کو بھی پناہ دیدی، ان کی سفارش پر اپنے

(۲۸) یہ کل پندرہ آدمی تھیں مکہ کے دن جن کے خون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال فرمادیا تھا، کیونکہ ان کو معاف کرنا سیکڑوں بندگان خدا کے ساتھ نا انصافی کا سبب تھا، جبکہ ان کا قتل کر دیا جانا کفر کی طاقت ٹوٹنے اور ظالموں جابریوں اور مجرموں کے دماغ ٹھکانے لگنے کا سبب تھا، اسلئے آپ نے ان کے قتل کا حکم فرمایا۔ ان میں سے چھوٹ کئے گئے ایک اپنی موت آپ مر گیا، بقیہ آٹھ نے کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر کے اسلام قبول کر لیا، ان کے جراحت یقیناً تقابل معافی تھے مگر یہ رحمۃ للطیبین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ظرف کی وسعت تھی

اپنے گھروں میں بند ہو جانے والوں کو بھی امن کا پروانہ دیدیا، ان کی شکایت پر الیوم یوم الملحمة کا نعرہ لگانے والے حضرت سعد بن عبادہؓ کو ڈانٹا، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور الیوم یوم المرحمة کا نعرہ دیا، اسی طرح ابوسفیان بن حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دشمنی اور آبروریزی کیا کرتے تھے، اس موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضرت یوسفؐ کے بھائیوں کے الفاظ دہراتے ہوئے تعالیٰ لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ میں لا تشریب علیکم الیوم یغفراللہ لكم کہہ کرنے صرف انہیں معاف فرمادیا بلکہ آپ نے ان کے لئے جنت کی شہادت بھی دی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائی تو باہر نکلنے کے بعد عثمان بن ابو طلحہ کو بیلا کر چاہی انہیں کے حوالہ کردی اور مزید کرم یہ فرمایا کہ اب ہمیشہ یہ خدمت تمہاری ہی نسل میں رہے گی۔ اسی طرح عتاب بن اسید مسلمان ہوئے تو انہیں مکہ کا گورنر بنادیا۔ وغیرہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیکھروں دشمن گرویدہ اسلام و ایمان ہو گئے۔

کعبہ شریف ہمیشہ کے لئے پاک ہو گیا:-

بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے اندر مشرکین کے رکھے ہوئے تین سو ساڑھ بتوں کو اسی طرح لکڑی سے بنائے ہوئے کبوتر کو پھنکوا دیا اور کعبہ کو صاف کروا یا، اس کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریوں کو مٹوایا، اس کے بعد اس میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائی، اور باہر آ کر اس کا طواف کیا پھر صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیٹھ گئے وہاں مردوں اور عورتوں کو بیعت فرمایا^(۲۹) حضرت بلالؓ نے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر ظہر کی اذان کہی، اذان کے بعد نماز باجماعت ادا کیگئی۔ اس کے بعد آپ نے مختلف صحابہؐ کرامؐ کو اطرافِ وکناف کے

کہ ان کی معذرت قبول کر لی اور معاف کر کے ان کے لئے استغفار فرمایا (دیکھ تفصیل کیلئے برے المصنف جلد دوم)

(۲۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی بیعت فرماتے تھے، مگر ان سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے، زبانی طور پر اقرار لے کر فرمادیتے تھے کہ جاؤ میں نے تمہیں بیعت کر لیا۔ (بخاری: ۲۷۶۲/۲)

مشہور بنت کدوں کی جانب روانہ فرمایا تاکہ وہاں موجود بتوں کو ختم کر کے کفر و شرک کا سلسلہ پورے جزیرہ العرب میں بند کر دیا جائے۔

عام الوفود:- (۷۰)

جب مکرمہ فتح ہو گیا، اور عرب کا سب سے بااثر خاندان "قریش" اسلام دشمنی سے بازا آ کر ہتھیار ڈالنے اور اسلام قبول کر لینے پر مجبور ہو گیا تو دیگر قبائل عرب کیلئے سوائے مسلمان ہو جانے کے اور کوئی راستہ نہ رہا، سن نو ہجری میں خوب تیزی سے اسلام پھیلتا رہا، مختلف قبائل کے وفود خدمتِ القدس میں حاضر ہوتے اسلام کو سمجھتے اور قبول کرتے رہے، اسی وجہ سے اس سال کو اہل سیرت "عام الوفود" کہتے ہیں کتب سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں مختلف علاقوں اور قبیلوں سے آپ کی خدمت میں پہنچ کر مشرف بر اسلام ہونے والے وفوڈ کی تعداد ایک سو سے تجاوز ہے۔ مختصر یہ کہ دیکھتے دیکھتے سارا عرب اسلام کے زیر گلیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے تحت آگیا۔ پھر یہ سلسلہ دور دور تک پھیلتا چلا گیا، بالآخر وہ اسلام جس کا آغاز بہت ہی کمزوری اور سس پر سی کے عالم میں ہوا تھا صرف تیرہ سالہ صبر اور آٹھ سالہ مقابلہ کے بعد ایسا غالب ہوا کہ چوڑف اسی کا سکھ اور اسی کا حکم قائم ہو گیا۔ فلله الحمد و صلی اللہ علی النبی الکریم۔

صدق اکبر امیر الحجاج بنائے گئے:-

اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابو بکر ہتھیں سو مسلمانوں کو لے کر حج کے ارادے سے مکرمہ پہنچے، مشرکین نے بھی حسب معمول حج کیا، اس حج کے موقعہ پر حضرت علیؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورہ برأت سنایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کیلئے حرم شریف میں داخل نہ ہو سکے گا، (۱۷) اور نہ کسی کو اجازت ہو گی کہ اپنیسا بقہر واجح کے مطابق کعبۃ اللہ کا بہمنہ طواف کرے، ظاہر ہے کہ اگلے سال نبی کریم

(۲۰) وفود و فدکی حج ہے، وندگروہ اور ٹم کو کہتے ہیں، عام سال کو کہتے ہیں۔ سن نو ہجری میں لوگ گروہ در گروہ مدینہ آ کر مسلمان ہوتے رہے، اسی کا ذکر ورأیت الناس يدخلون في دین الله افراجاً والی آیت میں ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کرنا تھا، اور خالص اسلامی حج کا عملی مظاہرہ ہو کر ان مناسک کا قیامت تک محفوظ ہو جانا ضروری تھا، اگر حج کے جاہلی رسوم اور غیر مسلم لوگ اس حج میں حسب معمول شریک رہتے تو اس اہم عبادت کے خالص اسلامی طریقے کا مظاہرہ اور پھر اسکی حفاظت مشکل ہو جاتی۔ حضرت علیؓ کے اعلان کو سن کر مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آخراً ورس بات کا ہمیں انتظار ہے، قریش تو مسلمان ہو گئے، ہم نجرا ہ گئے ہیں، چنانچہ اکثر لوگوں نے دین اسلام قبول کر کے اپنے کو ہلاکت و محرومی سے بچالیا، اور جو بد نصیب تھے وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔

حجۃ الوداع یا حجۃ البلاغ:-

اگلے سال سن دس بھری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر حج کا ارادہ ظاہر فرمایا، اس خوشخبری کو سن کر تمام صحابہؐ کرام کے دل آپ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کیلئے چلنے لگے، آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ جن لوگوں کو کچھ عذر نہیں وہ میرے ساتھ حج کر کے اس کا صحیح طریقہ سیکھ لیں، چنانچہ ہزاروں مردو خواتین بڑے جوش و خوش سے اس مبارک قافلہ میں شامل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواب مطہرات کو بھی ساتھ لیا، سیدہ فاطمہؓ اور حضرت علیؓ بھی ہمراہ رہے۔ راستہ تمام اور مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسک حج کی تعلیم فرماتے اور طریقہ حج سکھاتے رہے، وقاً فو قتاً اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مشتمل خطبے بھی دیتے رہے، عرفات پہنچنے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے اوپر چڑھ کر تقریباً ایک لاکھ یا اس سے زائد مسلمانوں کے مجمع سے خطاب فرمایا، اس خطاب

(۱۷) یہ سورہ برأت کی ابتدائی چار آیات ہیں، اس آیت کا نزول حضرت ابو بکرؓ کی روائی کے بعد ہوا تھا، اسلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو اس کے اعلان کا مامور بنا کر روانہ فرمایا، ان کی مدد کے لئے ساتھ میں حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت عقيل بن عمروؓ غیرہ کو بھی کر دیا، حضرت علیؓ نے مکہ ہیوچ کر چار باتوں کا اعلان کیا: ۱۔ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے کوئی اور نہیں۔ ۲۔ کعبۃ اللہ کا برہمنہ طواف اب کبھی نہیں کیا جائے گا۔ ۳۔ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے وہ معاہدہ مت کی تکمیل تک قائم رہے گا۔ ۴۔ آئندہ سال سے کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ (سلیل ۹۸۲/۲)

میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی اور اہم باتوں کی طرف توجہ دہانی فرمائی، اس حج کو حیات طبیہ کے آخری سال واقع ہونے کی وجہ سے یا آئندہ سال ملاقات نہ ہو سکنے کے اعلان کی وجہ سے ”حجۃ الوداع“ اور دعوت و تبلیغ کی تکمیل ہو جانے کی وجہ سے ”حجۃ البلاغ“ نیز اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیمات کے اعلان کی وجہ سے ”حجۃ الاسلام“ کہتے ہیں۔ سفر آخرت کی تیاری :-

وَيَسِّرْ تَشْرُعَ مَاهِ صَفَرْنَ گیارہ ہجری ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری کا آغاز فرمادیا تھا، اس سے قبل حج کے دوران جب آلیُومُ اَكْمَلَتْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتُمْمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا نازل ہوئی تو اس وقت بھی فرمادیا تھا ”شاید اس کے بعد پھر تم سے ملنانا ہو اور شاید آئندہ تمہارے ساتھ میں حج نہ کر سکوں“ پھر واپسی کے بعد جب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتْحُ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید اور توبہ واستغفار کی کثرت شروع فرمادی، اہم و صیتیں فرماتے رہے، اپنے اصحاب کرام کو بہت حکیمانہ انداز میں صبر کی تلقین فرماتے رہے۔

ایک دن شہدائے احمد کے مقابر پر تشریف لے گئے ان کے لئے دعاء مغفرت فرمائی، ایک رات جنتِ لبیقیع تشریف لے گئے اور وہاں آرام کرنے والے مسلمانوں کیلئے دعا فرمائی، یہ بھی فرمایا کہ ”مبارک ہو کہ تم ان آزمائشوں سے محفوظ ہو جس میں لوگ بیٹلا ہیں، فتنے اندھیری رات کے گلزوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر اگلا فتنہ پچھلے فتنے سے بدتر ہے“

ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: جب تک ہر سال رمضان میں میرے ساتھ قرآن کریم کا صرف ایک دور کرتے تھے، اس سال دو دور کئے ہیں، میں گمان کرتا ہوں کہ میری روائگی کا وقت قریب آگیا ہے۔ نیز اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس کے بجائے بیس یوم کا اعتكاف فرمایا۔ (۲۰)

ایک مرتبہ منبر مبارک پر تشریف فرمادی کر مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”میں تم کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتا ہوں اور تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، دیکھو لوگو! اللہ کی زمین پر تکبیر اور غرور سے مت رہا کرو۔“ اس مختصر مگر مفید و جامع وصیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے امن و امان کیلئے نیز رحمت خداوندی کے نزول اور رزق کی فراخی کے لئے دعائیں دیں۔

معاملات کی صفائی:-

ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کرامؐ کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: اگر میں نے کسی کو مارا ہو یا بھلا کھا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے یا انتقام لے لے، اور اگر میرے ذمہ کسی کا پیسہ باقی ہے تو وہ مجھے معاف کر دے یا مجھ سے اپنا حساب کتاب کر لے، خبردار! اس معاملہ میں کوئی شخص شرم یا میری ناراضگی کا لحاظ و خیال نہ کرے، کیونکہ دنیا میں معاملات کی صفائی آسان ہے مگر قیامت کے دن یہ کام بہت مشکل ہے۔

مرض الوفات:-

۲۹ ر صفر سن گیارہ ہجری دوشنبہ کے دن کسی جنازہ میں شرکت کے لئے تشریف لے گئے واپسی ہی سے صحت مبارک ناساز رہنے لگی، درد سر اور بخار شدید ہو گیا، بخار اس قدر شدید تھا کہ سر مبارک پر جور دمال ڈال رکھا تھا بخار کی حرارت اس کے اوپر سے بھی محسوس ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ۱۱ ریوم تک نماز کیلئے مسجد تشریف لاتے اور امامت فرماتے رہے، آخری دنوں میں تمام ازدواج مطہرات کو جمع فرمائیں سے حضرت عائشۃؓ کے گھر میں مستقل قیام کرنے کی اجازت لے لی، سب بیویوں نے بخوبی رضامندی ظاہر کی، ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اکثر یہ کلمات رہتے تھے۔ اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ (۲۹)

ایک دن اسی اثنائیں غسل فرمایا اور طبیعت ہلکی محسوس فرمائی تو مسجد مبارک میں

(۲۷) اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کو عمر کے آخری ایام میں عبادات، اور دعا و استغفار کی کثرت اور جوع الی اللہ کا اہتمام رکھنا چاہئے، آج کل انسوں ہے کہ اس عمر میں دنیا کے چھیلے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔

تشریف لائے اور اپنے دیدار کے لئے بے تاب و منتظر صحابہ سے فرمایا کہ: ”ایک قوم نے تم سے پہلے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنالیا تھا مگر تم لوگ ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ جو کوئی انبیاء کی قبر پر سجدہ کرتا ہے اس پر اللہ کا سخت غضب ہوتا ہے، دیکھو! میں تمہیں ایسی حرکت کر کے غضب خداوندی کے مستحق بننے سے منع کرتا ہوں، میں تبلیغ کرچکا“ (تمہارا کام اتباع ہے) یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے فریضہ کی ادائیگی پر گواہ بنایا، اس کے بعد نماز پڑھائی، نماز کے بعد منبر مبارک پر آخری مرتبہ چڑھے اور فرمایا کہ ”ایک بندے کو زندگی اور موت کے بارے میں اختیار دیا گیا تو اس نے آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں پسند کر لیا ہے۔“ (۷۲)

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی، ان کے احسانات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ انصار کی اچھائیاں قبول کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو درگذر کر دیا کرو۔

آخری امامت، آخری خطاب:-

جمعرات کے دن کی مغرب وہ آخری نماز تھی جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ادا کی، اس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سورہ مرسلات“ کی تلاوت فرمائی، اس دن نمازِ عشاء کے لئے بھی مسجد آنے کو بہت بے چین ہوئے مگر تشریف نہ لاسکے، حضرت ابو بکرؓ کو ہدایت دی کہ وہ امامت کریں، چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھائی، یہ صدیق اکابرؓ کی خلافت بلا فصل کا عملی اعلان تھا، یہیں سے خلیفہ اول صدیق اکابرؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیتے جی سنبھال لیا تھا۔

سپتھر یا اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چالیس غلاموں کو آزاد فرمادیا

(۳۷) اے اللہ! میری بخشش فرمادیجئے اور رفق اعلیٰ سے ملا دیجئے، رفق اعلیٰ سے مراد انبیاء و شہداء وغیرہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے کہ اس سے قبل آپ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین بھی پڑھا کرتے تھے۔

(۷۲) یہ سنتے ہی صدیق اکابرؓ سمجھ گئے کہ آپ اپنی جدائی کا اعلان فرمائے ہیں، روتے ہوئے عرض کیا: نہیں ہم اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں آپ کی زندگی کے لئے قربان کر دیں گے، آپ نے فرمایا: ابو بکرؓ قابو میں رہو۔ پھر

اور صرف سات دینار جو گھر میں رکھے ہوئے تھے انہیں بھی خیرات کروادیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو عطا فرمادیئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس وقت ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، اس شب میں گھر کی حالت یہ تھی کہ حضرت عائشہؓ کو اپنا چراغ جلانے کیلئے تیل پڑوں سے مٹکانا پڑا۔

پیر کے دن صبح کی نماز ہورہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھا کر نماز باجماعت کے پرکشش منظر کا نظارہ فرمایا، نماز باجماعت کا منظر دیکھ کر چہرہ انور مسرت و خوشی سے چمک اٹھا، ہونٹوں پر مسکرا ہٹ کھینچ لگی، کیونکہ یہ آپ کی تینیس سال کی قربانیوں کا شمرہ تھا۔

حضرت فاطمہؓ کو خوشخبری:-

دن چڑھے حضرت فاطمہؓ زہراؓ ملاقات کو آئیں تو قریب بلا کران کو وفات کی خبر دی یہ خبر سن کر وہ روپڑیں، پھر آپ نے قریب کر کے انہیں یہ بتلایا کہ غم مت کرو مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی قسم ہی ہو، اس پر وہ خوشی سے ہنسنے لگیں۔ آپ کی شدت تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہؓ نے ”آہ“ بھری تو فرمایا: ”آج کے بعد تیرے باپ کو پھر کبھی تکلیف نہ ہوگی“ بعد ازاں حضرات حسین کرامؐ کو قریب کر کے ان کا بوسہ لیا، پھر ازاں واج مطہرات کو جمع کر کے کچھ نصیحتیں فرمائیں، حضرت علیؑ کو بلا کر انہیں بھی کچھ نصیحت فرمائی اس کے بعد عام مسلمانوں کیلئے ارشاد فرمایا کہ ”نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنے ماتھوں سے اچھا سلوک کیا کریں۔“

آپ نے ارشاد فرمایا: میرے بعد مسجد میں کھلنے والے سب دروازے بند کر دیئے جائیں، سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے میں نہیں جانتا کہ ابو بکرؓ سے بڑھ کر بھی کوئی میرے نزدیک بہتر ہے، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکرؓ کو بناتا لیکن وہ میرے ایمانی بھائی اور میرے ساتھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو اپنے پاس جمع فرمائیں۔ (ابن ہشام عن البخاری: ۳۰۶)

آخری محدثات اور وفات:-

اس کے بعد سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی اس وقت صدیقہ عائشہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھے سے سہارا دیئے پیشی تھیں، سرہانے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈبایا کر چہرہ انور پر ملتے جا رہے تھے، زبان مبارک پر یہ کلمات تھے۔ لا اله الا الله ان للموت سكرات ”اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک موت کی ایک زبردست سختی ہے۔“

حضرت عائشہؓ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکرؓ گھر میں آئے تو ان کے ہاتھ میں مساوک دیکھ کر اس کی رغبت ظاہر فرمائی، حضرت عائشہؓ نے اسے دانتوں سے نزم کر کے پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں میں مساوک کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی۔ اللهم الرفيق الاعلى (۵۷)

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان مبارک کے آخری الفاظ تھے جو ۲۳ ربمس سے پیغام خداوندی کے پہنچانے اور اللہ کی طرف بندوں کو دعوت دینے میں دن رات مصروف تھی، اس کے بعد اللہ کے اس محبوب اور آخری نبی کی زبان مبارک قیامت تک کیلئے خاموش ہو گئی، دنیاوی کی برکات اور زبان نبوت کے کلمات سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئی۔ (۶۱)

صحابہ کرامؓ کا حال:-

یہ ربع الاول کی بارھویں تاریخ دو شنبہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا اور ہجرت کا گیارہوں سال تھا! انا لله وانا اليه راجعون

دیکھتے دیکھتے یہ دل گداز و جاں سوز خبر اطراف و اکناف میں پھیل گئی، صحابہ کرامؓ

(۵۷) بخاری و مسلم میں آپ کے آخری کلمات اس طرح مذکور ہیں: مع الذين انعمت عليهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ، اللهم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ ، اللهم فی الرفیق الاعلیٰ اللهم فی الرفیق الاعلیٰ اللهم فی الرفیق الاعلیٰ - اس کے بعد آپ کے دست مبارک بستر پر گرنے اور آپ رفیق الاعلیٰ سے جا ملے۔ (فتح الباری ۱۳۲۸)

اس اندو ہناک خبر کو سن کر حیران و پریشان ہو گئے، کوئی جنگل کی طرف بے تحاشہ بھاگ رہا تھا تو کوئی بے زبان بنا کھڑا تھا، عمر فاروقؓ تو مانتے ہی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عثمانؓ اپنے آپ میں نہیں تھے، ازواج مطہراتؓ الگ پریشان تھیں فاطمہ بتوںؓ علیحدہ سو گوار تھیں، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا؟

خلفیہ اول نے امت کو سنبھالا:-

صدقیق اکبرؓ ایک ہی دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت سے ذرا مطمئن ہو کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر پلے گئے تھے، اس حادثہ کی اطلاع ملنے کے بعد سر جھکائے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے واپس تشریف لائے، ججرہ عائشہؓ میں داخل ہوئے، چہرہ انور سے چادر ہٹا کر جبین مبارک کو بوسدیا اور قرآن کریم کی آیت *إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ* پڑھی۔

مسجد میں تشریف لا کر وفات حسرت آیات کی تصدیق کی اور صحابہ کرامؓ کو صبر و ثبات سے کام لینا اور صحیح معنوں میں آپ کے دین کی پیروی کرتے رہنے کی تلقین فرمائی اس موقعہ پر آپ نے قرآن کریم کی آیات *وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ النَّبِيُّمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبِيهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا* کی تلاوت سے سب کی عقولوں کو چونکا دیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ ہو چا سکے گا، اپنا ہی کچھ کھوئے گا۔

اس خطبہ کو سنن کے بعد تمام صحابہ کرامؓ کے قلوب قابو میں آئے اور انہوں نے فصلہ

(۷۶) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے اللہ اکبر کیا رہا۔ الحمد لله کشیرا و سبحان الله بکرہ و اصیلاً لکلا تھا، حضرت حمیمؓ نے اس کی شہادت دی۔ (تشریفیں عن المحدثین)

خداوندی کے آگے سر اطاعت ختم کرتے ہوئے اور اپنے دلوں کو آمادہ صبر بنتے ہوئے اگلے مسائل کو حل کرنے اور اپنے نبی کے جسدِ مبارک کو ان کے خدا کے حوالہ کرنے کے کاموں میں مصروف ہو گئے، حضرت ابو بکرؓ کی امارت میں حضرت علیؓ نے فضل دیا، حضرت عباسؓ اور ان کے دو صاحبزادوں فضل و قرمؓ نے اس کام میں مدد کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیقہ عائشؓ کے چورہ میں کھودی گئی قبر مبارک کے کنارے رکھ کر صدیقہ اکبرؓ کی ہدایت کے مطابق سب لوگ باہر نکل آئے، پہلے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر گروہ درگروہ صحابہؓ کرام اندر جاتے اور انفرادی طور پر نماز جنازہ پڑھ کر آتے رہے، باجماعت نماز بین پڑھی گئی، کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، جب سب لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد نورانی کو حضرت علیؓ، حضرت فضلؓ بن عباسؓ، حضرت اسماعیلؓ بن زیدؓ، حضرت عبد الرحمنؓ بن عوف نے قبر میں اتار کر حق تعالیٰ کی امانت حق تعالیٰ کے حوالہ کر دی۔ حاضرین نے قبر اطہر کو مٹی دینے کی سعادت حاصل کی، قبر مبارک کے اوپر مٹی کو اونٹ کی کوہاں کی شکل میں زمین سے قدرے بلند کیا گیا، اور اس پر پانی چھپر کا گیا۔ اس طرح زمین کے اس مبارک حصے نے نبوت کے آفتاب اور رحم و کرم جو دو سخاوت کے پیکر کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔

نفسی الفداء لقبر انت ساکنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم (۷۷)

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الله وازواجه وخلفائه واصحابه

اجمعين الى يوم الدين

خليفة رسول الله كابا قاعدہ انتخاب:-

خلافت پر حضرت ابو بکرؓ کا انتخاب کس طرح ہوا اس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں،

(۷۷) میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، اس قبر میں عفت و حصمت اور جود و سخا کے خواستے پوشیدہ ہیں۔ جہوڑ علماء اسلام کے نزیک زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے متعلق ہے زمین و آسمان اور بیت اللہ سے بھی زیادہ ممتاز و متبکر ہے۔

ان سب کو سامنے رکھ کر مختصر اس کا واقعہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انصار مدینہ ایک جگہ جمع ہو کر آپ کے خلیفہ کو منتخب کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، بعض کا خیال تھا کہ مہاجرین مہاجرین میں سے کسی کو خلیفہ رسول بنالیں اور انصار انصار میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، بعض کی رائے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے تو ان کا خلیفہ بھی قریش میں سے ہی ہونا چاہئے، اور انصار پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدگار تھے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کے مدگار رہیں گے۔ اتنے میں حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکرؓ کے مناقب و فضائل بتلا کر اور خلافت کے لئے ان کا سب سے بڑھ کر حق دار ہونا ثابت کر کے انصار کو ان کی بیعت پر آمادہ کر لیا، چنانچہ یہاں جمع لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر ان کی خلافت کے لئے بیعت کر لی، حضرت عمرؓ وہاں سے حضرت ابو بکرؓ کو لے کر مسجد نبوی میں آئے، یہاں بھی حضرت ابو بکرؓ کے فضائل بتلا کر مہاجرین سے خواہش کی کہ سب لوگ کھڑے ہو کر حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کر لیں، چنانچہ سب لوگوں نے ان سے بیعت کر کے ان کی خلافت تسلیم کر لی، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے جمع پر نظر ڈالی تو اس میں حضرت زیدؓ اور حضرت علیؓ کو نہیں پایا، آدمی کو بھیج کر ان حضرات کو بلوایا اور جب وہ لوگ آگئے تو فرمایا کہ میں اپنی پسند سے امیر نہیں بنا ہوں، آپ لوگ کسی اور کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو اب بھی موقعہ ہے بنالیں مگر امت کو کمزور نہ کریں، ان حضرات نے فرمایا: آپ ہمارے سلسلہ میں فکر مند نہ ہوں، ہمیں صرف ایک بات سے تکلیف ہوئی وہ یہ کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم مسئلہ کے مشورہ میں ہماری شرکت ضروری نہ سمجھی، ہم آپ کو خلیفہ کیوں نہیں مانیں گے جب ہم نے اپنے دین (یعنی امامت نماز) میں آپ کو خلیفہ مان لیا تو اپنی دنیا (یعنی امارت و خلافت) کیلئے آپ کو خلیفہ مانے میں ہمیں کیا تردید ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر ان حضرات نے بھی حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر ان

سے بیعت کر لی، تمام مسلمانوں کے اتفاق کے بعد حضرت ابو بکرؓ منبر پر چڑھے اور پہلا خطبہ خلافت دیا۔

حدیق اکبرؓ کا پہلا خطبہ خلافت :-

حضرت ابو بکرؓ نے حد و صلوٰۃ کے بعد فرمایا:

لوگو! مجھے امیر اور خلیفہ بننے کا کبھی شوق نہ ہوا، نہ دن میں نہ رات میں، نہ ہی میں نے کبھی اس کے لئے آرزو اور دعا کی، نہ ظاہر میں نہ باطن میں۔ لیکن آج میں نے اس بوجھ کو محض اس ڈر سے اٹھالیا ہے کہ میں آگے بڑھ کر اس وقت امت کو نہ سنجا لوں تو امت کے درمیان کہیں فتنہ و اختلاف نہ برپا ہو کر امت ٹوٹ نہ جائے، اب اگرچہ تمہارے چہن لینے سے میں تمہارا امیر ہو گیا ہوں، مگر مجھے تم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، (۷۸) ہمارے سامنے قرآن و سنت اور احکام شریعت موجود ہیں، سب سے عقل مندوہ ہے جو سب سے زیادہ متین ہے، میرے نزدیک تمہارا طاقتو اس وقت تک کمزور ہے جب تک میں اس سے کمزور کا حق نہ دلوادوں، اور تمہارا کمزور اس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کو اپنا حق حاصل نہ ہو جائے۔

لوگو! میں سنت کا اتباع کرنے والا اور بدعت سے نفرت کرنے والا آدمی ہوں جب تک میں صحیح چلوں تم میرا ساتھ دو اور اگر میں خداخواستہ سید ہے راستے سے ہٹ جاؤں تو تم مجھے راہ راست پر لے آؤ، اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔

لوگو سنو! جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے وہ بلاوں میں بیتلہ ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھو، اور بس اب چلنماز کی تیاری کرو، اللہ تم پر حرج فرمائے۔ آمین

(۷۸) حضرت ابو بکرؓ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں دیگر صحابہ کرام پر حقیقتاً بھی کوئی فضیلت نہ تھی، یقیناً پوری امت میں سب سے افضل ہیں، جس پر نصوص قطعیہ شاہد ہیں، یہ قول ان کی غاییت توضیح پر محظوظ کیا جائے گا، یا پھر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان اپنے بنیادی حقوق حاصل کرنے میں برابر ہیں۔ واللہ عالم

حلیہ مبارکہ :-

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کی صحابہ کرامؓ نے بڑی تفصیل کے ساتھ منظر کشی کی ہے، ایک لمبی روایت حضرت حسینؑ ابن علیؑ سے منقول ہے جو انہوں نے اپنے مامور حضرت ہند بن ابی ہالہؓ کے حوالہ سے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزاد و خصائص جانے کی بڑی خواہش رہتی تھی اور میرے مامور کو آپ کے بارے میں سنانے اور بیان کرنے کا بہت ذوق تھا۔ میں نے ایک دن اُن سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں کچھ بتائیے تو انہوں نے کہنا شروع کیا:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیاًت ذی وجاهت اور بہت باوقار تھے، آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کی چاند کی طرح دمکتا رہتا تھا، قد و قامت میں متوسط سے کچھ بلند تھے، نہ ایک دم لانبے اور نہ ہی پستہ قد بلکہ درمیان قد تھے، سر بر اتحا جو فور عقل کی نشاندہی کرتا ہے، بال نہ بالکل گھنگریا لے تھے نہ ایک دم سیدھے، بلکہ قدرے بل کھاتے ہوئے اور کانوں کی لوٹک دراز تھے، رنگ سُرخی مائل سفید یعنی گندمی تھا، نہ بالکل سفید کہ معیوب معلوم ہوا اور نہ ہی براؤں، پیشانی کشادہ تھی، بھویں باریک اور گہری تھیں، بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر آتی تھی، ناک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور اس طرح جگہ جگہ تارہ تھا کہ پہلی نظر میں آدمی اس کوناک کی بلندی ہی سمجھ لیتا تھا جبکہ ایسا نہیں تھا، دارجی گھنی اور بڑی تھی، گال ہلکے اور نرم تھے، منھ کشادہ اور وسیع تھا، دانت مضبوط اور باریک تھے، جن کے درمیان میں ہلکی رینجیں تھیں، سینہ اور پیٹ کیساں تھے، یعنی پیٹ سینے سے ابھر اہوانہ تھا، سینہ کشادہ اور چڑڑا تھا، گردان معتدل اور پُر گوشت تھی، خوب صورت اتنی جیسے مورتی یا تصویر کی گردان ہو، دونوں موئڈھوں کے درمیان وسعت تھی، ہڈیاں مضبوط اور موٹی تھیں، آنکھیں روشن اور چمکدار تھیں، حلق کے نیچے والے گڑھے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، اسکے علاوہ سینہ اور پیٹ پر کہیں بال نہ تھے، ہتھی کشادہ اور نرم تھی، تلوے بھی پُر گوشت مگر ہلکے اور ملائم

تھے، پنج چکنے اور سترہ تھے، چلتے تو قدم جما کر رکھتے اور قوت سے اٹھاتے تھے، رفتار تیز تھی نہ اکڑ کر چلتے تھے نہ عورتوں کی طرح ملک کر، ایسا لگتا تھا جیسے بلندی سے ڈھلان کی طرف اُتر رہے ہوں، کسی طرف پلٹتے تو مکمل پلٹتے تھے، نظریں اکثر نیچی رکھتے کبھی کبھار اٹھاتے تھے، اکثر راستے کن انکھیوں سے دیکھ لیتے تھے، چلنے میں اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیتے اور خود پیچھے ہو لیتے، جب کسی کا سامنا ہوتا تو سلام میں پہلی فرماتے تھے، اکثر فکر مند اور غم زده رہتے کبھی سکون نہ رہتا، بہت زیادہ چپ رہتے بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے، گفتگو کا آغاز اور اختتام منہ کھول کر یعنی پورے تنفظ کے ساتھ فرماتے، بات واضح کرتے نہ اس قدر کم کہ سمجھی نہ جاسکے نہ اتنی زیادہ کہ گرانی ہونے لگے، نہایت زرم گو تھے نہ سخت کلامی کرتے اور نہ کسی کی تحریر ہونے دیتے، حق تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی قدر دانی فرماتے تھے، حقیر سے حقیر نعمت کو رُ انہیں کہتے تھے، اگر تعریف کے قابل نہ ہو تو سکوت فرماتے، نہ مدت کرتے نہ تعریف، اگر کسی طرف اشارہ کرنا ہوتا تو پوری ہتھیلی سے فرماتے، اظہارِ تجہب کرنا ہوتا تو ہتھیلوں کو الٹ دیتے تھے، جب گفتگو فرماتے تو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی باہمیں ہاتھ کے انگوٹھے سے لکراتے تھے، کسی سے ناراض ہوتے تو بس اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے اور گویا روٹھ جاتے اور کسی سے خوش ہوتے غایتِ حیا سے نگاہیں جھکا لیتے تھے، ہنسی میں زیادہ تر مسکراہٹ پر اکتفا فرماتے، زیادہ سے زیادہ چند دانت نظر آ جاتے تھے، ہمیشہ خندہ پیشانی سے رہتے، ہر ایک کے ساتھ عمده اخلاق سے پیش آتے، سخت کلامی، بد مزاجی سے دور رہتے، بازاروں میں زور سے بات نہ کرتے تھے، غیبت اور مرح سرائی سے بچتے تھے، آپ کی مجلس بڑی باوقار، پُر ہبیت مجلس ہوتی تھی، جب آپ بولتے تو سب خاموش سنتے تھے، آپ چپ ہوتے تو دوسرے بولتے تھے، کسی کی آواز آپ کی آواز سے اوپنجی نہیں ہوتی تھی، مجلس میں کسی کی بے آبروئی نہیں کی جاتی تھی، کسی کی غلطی کا مذاق نہ بنایا جاتا تھا، بہت ہی حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔

یہ صرف ایک روایت ہے، ایسی متعدد روایات ہیں جن میں آپ کی ایک ایک عادت اور صفت کو جوڑ نے کی کوشش کی گئی ہے جسے سیرت کی بڑی کتابوں میں ضرور پڑھنا چاہئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأَئْمَاءِ
حَقْوَقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:-

گذشتہ صفات میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور پاکیزہ صورت کی ایک جھلک دیکھ لی ہے، اب ذیل میں امت پر آپ کے حقوق کی قدر تفصیل بیان کی جاتی ہے، یہ موضوع بھی اگرچہ بہت بی بحث چاہتا ہے مگر پچھلے تمام عنوانات کی طرح اس عنوان کو بھی مختصر اسی ذکر کیا جا رہا ہے۔

قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے آپ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرنے کے بعد امت پر آپ کے حقوق اربعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا
وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ۔ (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: پس جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی عزت کی، اور ان کی مدد کی، اور ان پر نازل شدہ کلام کی اتباع کی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس آیت شریفہ میں آپ کے چار حقوق بتائے گئے ہیں، ایمان تو قیر، نصرت اور اتباع قرآن و سنت!

علامہ سید محمد آلوسیؒ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

پس جو لوگ ان پر ایمان لائے یعنی ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور تعظیم و تو قیر کا حق ادا کیا یعنی ان کی ایسی حفاظت کی کہ کسی دشمن کو ان تک پہنچنے اور انہیں نقصان پہنچانے کا موقعہ نہ مل سکے اور اعداءِ دین کے مقابلہ میں بھی ان کی نصرت اور مدد کی، یعنی ان کے ہر نفع کی رعایت اور ہر ضرر سے حفاظت کو ضروری سمجھا، اور جو کچھ آپ کے اوپر

نازل کیا گیا ہے یا آپ کے ذریعہ بھیجا گیا ہے، (یعنی کتاب و سنت) اس کا اتباع کیا تو ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں با مراد و کامیاب ہوں گے، بشرطیکہ یہ سب رضاۓ الہی اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے کیا ہو۔ اس آیت میں اتباع کی اہمیت اور اتباع کرنے والوں کے مقام و مرتبے کو واضح کیا گیا ہے۔ (۷۰)

ان چار بنیادی حقوق کے علاوہ بھی متعدد حقوق ہیں جو قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث شریفہ میں بیان کی گئی ہیں، علماء کرام نے انہیں مستقل ستاوں میں جمع کر دیا ہے، جس شخص کی تمنا یہ ہو کہ وہ جب اس دنیا سے آخرت کی طرف چلا جائے تو اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے راضی اور خوش ہوں تو اسے چاہیے کہ اپنے اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو فضیل سے معلوم کرے اور اہتمام سے ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین